

آج نہیں تو کبھی نہیں

*Now or Never*

سستی، کاہلی اور تن آسانی

Procrastination

تعارف، وجوہات اور علاج

محمد بشیر جمعہ

basheerjuma@hotmail.com  
www.timemangementclub.com  
P. O. Box 8545  
Karachi 75500

# آج نہیں تو کبھی نہیں

محمد بشیر جمعہ

## Now or Never

By: Muhammed Basheer Juma

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

غیر قانونی طور پر چھپوانا اور فروخت کرنا ہر لحاظ سے جرم ہے۔

پہلی اشاعت: دسمبر 2005ء

اہتمام: عبدالسلام سلامی

کمپوزنگ و صفحہ سازی: احمد گرافکس، کراچی

ناشر: الفتح بک سینٹر

پوسٹ باکس 8545، کراچی 75530

URL: [www.timemanagementclub.com](http://www.timemanagementclub.com)

تقسیم کنندگان (پاکستان)

فضلی بک سپر مارکیٹ

اردو بازار، کراچی، پاکستان

فون: 021-2212991 فیکس: 021-2633887

انڈیا

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، ڈی 307، دعوت نگر، ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، دہلی 110025

ای میل: [mmcpub@nda.vsnl.net.in](mailto:mmcpub@nda.vsnl.net.in)

## فہرست

### تعارف، تجزیہ، عذرات اور وجوہات

- 9 ..... تصویر ٹھیک کر لیجیے، ایک سبق آموز تمثیل
- 11 ..... سستی، کاہلی، ایک دشمن
- 11 ..... تساہل کیا ہے؟
- 12 ..... کل کا تصور
- 14 ..... ہماری مسلسل زندگی پر تساہل کے اثرات
- 15 ..... تساہل کے اثرات — اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے
- 17 ..... ذرا ہمت کیجیے
- 17 ..... تساہل کی خطرناک علامات
- 19 ..... لمحوں کی سستی، صدیوں کی سزا — ایک سبق آموز واقعہ
- 19 ..... میں جاہلی ڈھونڈتا، تیری محفل میں رہ گیا
- 20 ..... تساہل کی اقسام
- 21 ..... تساہل کے شعبے
- 25 ..... تساہل، سستی اور کاہلی کا جائزہ

- 34 ..... تساہل کے معاملے میں آپ کے عذرات
- 35 ..... تساہل سے گریز کی چند صورتیں
- 35 ..... سستی اور کاہلی کی وجوہات

## علاج، حقائق، احساس اور مشورے

- 38 ..... چند حقائق
- 39 ..... شخصی عناصر جن کے باعث ہم سست اور کاہل ہوتے ہیں
- 39 ..... جائزہ لیجئے
- 41 ..... جائزہ اور خود احتسابی
- 47 ..... اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیے

## ایکشن پلان

- 50 ..... صبح و شام، پلاننگ اور احتساب
- 51 ..... واضح مقصد اور حصوں میں تقسیم
- 52 ..... توازن، توازن و تسلسل
- 52 ..... حقیقت پسندی
- 52 ..... ادھورے کام اور ترجیحات
- 53 ..... ڈیڈ لائن
- 53 ..... ترجیحات، امور کی تقسیم اور تفویض امور
- 59 ..... ماحول کو سازگار بنائیے
- 60 ..... وقفے اور انتظار کے لمحات
- 60 ..... بہترین اوقات اور یکسوئی

- 61 ..... فرصت تو مرنے کے بعد ہی مل سکتی ہے
- 62 ..... ہاں میں کوشش کروں گا
- 63 ..... موقع کا انتخاب
- 63 ..... صحت کا جائزہ
- 63 ..... دور حاضر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیے
- 64 ..... کرنے کے دو کام
- 64 ..... اپنے آپ کو ان 'غ' سے بچائیے
- 65 ..... بیلنس شیٹ
- 65 ..... وصیت
- 65 ..... مالیاتی امور
- 66 ..... زکوٰۃ و وراثت
- 66 ..... اپنی آخرت کی فکر
- 66 ..... تکمیل پر خوشی کا اظہار
- 67 ..... استغفار
- 67 ..... جنازے میں شرکت
- 67 ..... حقوقِ نفس
- 67 ..... چند سوالات
- 71 ..... ہشیار بنیے، دور اندیش بنیے
- 71 ..... دُعائیں
- 72 ..... آخری سوال

## انتساب

1- جو یہ دُعا کرتا ہے:

اے اللہ!

تو ہمارے ظاہر کو اچھا اور شائستہ بنا دے

اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا دے

(مسنون دُعا)

2- جس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے:

خدا اس شخص پر رحم کرے

جس نے نیشن حکیمانہ کو سنا اور اسے مانا،

جب راہِ راست کی طرف بلا یا گیا تو اس سے قریب ہو گیا،

ہادیٰ راہ (معرفت) کا دامن تھاما اور نجات پا گیا،

جس نے دستورات پروردگار کی نگہداری کی اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہا،

جس نے اپنے عملِ خالص کو (مرنے سے پہلے حضور خداوندی میں) بھیج دیا،

جس نے اپنے کردار کو نیک اور شائستہ رکھا،

جس نے نیک کام کیے اور صرف انہی چیزوں کو حاصل کیا جو (آخرت میں) ذخیرہ بن سکیں اور ان چیزوں سے دور رہا جن سے حذر واجب ہے، جس نے اغراض دنیا کو پامال کیا اور (اغراض دنیا کے) عوض (متاع آخرت) حاصل کر لی، جو خواہشوں پر غالب آیا اور اس کی تمناؤں کو دروغ سمجھا، جس نے شکیدبائی کو اپنی نجات و رستگاری کا مرکب قرار دیا اور تقویٰ و پرہیزگاری کو توشہ مرگ بنا لیا، راہ روشن پر قدم رکھا اور شاہراہ درخششاں سے دور نہ ہوا، جس نے زندگی کی چند روزہ مہلت کو نعمت شمار کیا اور فرصتِ عمل کو ہاتھ سے نہ جانے دیا (پھر) موت کی طرف عمل کا توشہ لے کر بڑھا۔

(حضرت علیؓ)

اے راہرو فرزانہ! رستے میں اگر تیرے  
گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو  
ساماں کی محبت میں مضمحل ہے تن آسانی  
مقصد ہے اگر منزل، غارت گرِ ساماں ہو  
(علامہ اقبال)

-3

4- جب ہم ایک سیب کاٹتے ہیں تو ہمیں چند بیج نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم بیجوں کو بوتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنے سیب نکلتے ہیں۔ بیجوں کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور سیب، بلکہ ہر سیب مختلف رنگ اور مختلف شکل کا۔ یہ کتاب سیبوں کے لیے بھی ہے اور بیجوں کے لیے بھی۔ یعنی سیب کے بیجوں کے لیے اور بیجوں کے سیبوں کے لیے۔





## تعارف، تجزیہ، عذرات اور وجوہات

### تصویر ٹھیک کر لیجیے، ایک سبق آموز تمثیل

ایک شخص مطالعے میں مصروف تھا، پاس ہی اس کا بچہ کھیل رہا تھا۔ بچے نے جب غل مچانا شروع کیا تو اس نے بڑی محبت سے کہا ”دیکھو بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں۔ شور نہ کرو“ بچہ خاموش ہو گیا لیکن زیادہ دیر ضبط نہ کر سکا۔ جب پھر اودھم مچانے لگا تو باپ کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے میز سے پرانے اخبار کا ایک ورق اٹھایا جس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو سامنے بٹھا کر، اخبار بیچ میں رکھا اور بیٹے کو بتایا کہ یہ دنیا کا نقشہ ہے اور اس میں پاکستان ہے، یہاں سعودی عرب، یہاں امریکہ، یہاں بحر الکاہل اور یہاں ہمالیہ ہے۔ بیٹا دیکھتا رہا اور جی ابو، جی ابو کہتا رہا۔ پھر باپ نے وہ ورق اٹھایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچے کے حوالے کر دیا اور کہا۔ لو بیٹا۔ اسے برابر والے کمرے میں لے جاؤ اور نقشے کو پھر سے جوڑ لاؤ۔

جب بچہ چلا گیا تو باپ نے اطمینان کا سانس لیا اور دل میں کہا تین چار گھنٹوں کے لیے درد سر ختم ہوا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچہ آدھ گھنٹے یا پینتالیس منٹ کے بعد دوڑتا ہوا آیا اور بڑے فخر سے کہنے لگا ”ابو ابو۔ دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ ابو ابو۔ دنیا کا نقشہ بن گیا۔“ باپ نے دور سے نقشے پر نگاہ ڈالی۔ پہاڑوں کے سلسلے، دریاؤں کی گزرگاہیں، شہروں کے محل وقوع سب اپنے اپنے مقام پر درست پائے۔ پوچھا۔ ”بیٹا تم نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا۔“ بیٹے نے جواب دیا ”ابو یہ کام بڑا آسان تھا۔“ باپ کی جستجو اور بڑھ گئی۔ بیٹا نے کہا ”ابو۔ آپ نے جب نقشے کے ٹکڑے

کرنے کے لیے اسے اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس نقشے کی دوسری طرف اتنی ہی بڑی انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ بس میں نے اس تصویر کو جوڑ دیا۔ دنیا کا نقشہ آپ سے آپ ٹھیک ہو گیا۔“

حقیقت یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور جس قسم کی بھی اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے اور اپنی ذات کی تنظیم کی طرف توجہ دے۔ ہمارے گھروں کا، ہمارے دفتروں کا، ہمارے محلوں اور علاقوں کا، ہمارے معاشرے کا اور زندگی کے جن جن معاملات سے ہمارا تعلق ہے، وہاں کا نقشہ بگڑا ہوا ہے۔ اس نقشے کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان کی تصویر کو ٹھیک کریں۔ یہ انسان کی تصویر درحقیقت ہماری اپنی تصویر ہے۔ یہ بکھری ہوئی ہے، اسے جوڑنا ضروری ہے۔ ہم اپنے ماحول کی اصلاح اور حالات کی درستی کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نقشہ ٹھیک ہو جائے لیکن ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ گہرائی میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، تصویر بکھری ہوئی ہے۔ تصویر اس لیے بکھری ہوئی ہے کہ:

- ہماری زندگی کا کوئی نصب العین نہیں ہے۔
- زندگی گزارنے اور زندگی سے حاصل کرنے کے لیے کوئی مقاصد متعین نہیں ہے۔
- ہمارے ارادے اور عزائم کمزور ہو چکے ہیں۔
- ہماری طبیعت میں سستی اور کاہلی آ گئی ہے۔
- ہمارے معاملات میں تساہل پیدا ہو گیا ہے۔
- ہم آج کے کام کو کل پر ٹالتے ہیں۔
- ہم ”پھر کبھی“ کا شکار ہیں۔
- فیصلوں میں اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ بس نکل جاتی ہے، ٹرین چھوٹ جاتی اور فلائٹ بند ہو جاتی ہے۔
- ہم اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں کہ قسمت کامیابی کے دروازے پر دستک دیتی ہے اور ہم اسے کھولتے تک نہیں۔

درحقیقت ہماری زندگی میں سستی اور کاہلی آ گئی ہے اور ہم نے ”کل“ پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ نصب العین اور مقاصد کا تعین بھی کل کریں گے اور باقی سب کام بھی وقت آنے پر خود بخود ہو جائیں گے۔

## ستی، کاہلی، ایک دشمن

یہ ”تساہل“، ”ست روی“، ”ٹال مٹول“، ”تاخیر“ اور ”پھر کبھی“ ہمارے دشمن اور ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی تباہ کن ہیں۔ یہ نشہ آور چیزوں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ جو شخص نشہ کرتا ہے وہ معاشرے سے کافی حد تک کٹ جاتا ہے مگر تساہل اور ست روی کا شکار فرد معاشرے میں شامل رہ کر معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارے دفاتر ہوں، کاروبار ہوں یا گھریلو زندگی ہر جگہ اس تساہل والے مزاج نے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں۔

امام عبدالرحمن ابن جوزی (۵۱۱-۵۹۷ھ) نے اپنی کتاب **سنباح الفاسدین** میں تو بہ کے باب میں تسویف (آئندہ کر لوں گا) کے بارے میں لکھا ہے:

”آئندہ پر ٹالنے والے بالعموم ہلاک ہوتے ہیں کیوں کہ وہ ایک ہی جیسی دو چیزوں میں فرق کر جاتے ہیں۔ آئندہ پر ٹالنے والے کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے ایک درخت اکھاڑنا ہو۔ وہ دیکھے کہ درخت بہت مضبوط ہے، شدید مشقت سے اکھڑے گا، تو وہ کہے کہ میں اس کو اکھاڑنے کے لیے ایک سال کے بعد آؤں گا۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ درخت جتنی مدت باقی رہے گا، مضبوط ہوتا جائے گا اور خود اس کی جتنی عمر گزرتی جائے گی، وہ کمزور ہو جاتا جائے گا۔ جب وہ طاقتور ہونے کے باوجود درخت کو کمزوری کی حالت میں اسے نہیں اکھاڑ سکتا تو جب وہ کمزور ہو جائے گا وہ درخت زیادہ طاقتور، تو پھر اس پر کیسے غالب آسکے گا۔“

## تساہل کیا ہے؟

مزاج اور رویے کے باعث اہم چیزوں کو غیر اہم امور کے مقابلے میں مؤخر کرنے کے عمل کو تساہل یا ٹال مٹول کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے پروکرسٹی نیشن (Procrastination) کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم بعض اہم کاموں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کے لیے مناسب وقت اور سکون میسر نہیں

ہوتا اور بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کرنے کے لیے ابھی کافی وقت اور عمر باقی ہے۔ ہم اللہ کی نعمت ”وقت“ کو رائیگاں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”جو نبی آنے والے دن کی پوچھتی ہے تو وہ آواز لگاتا ہے: اے آدم کی اولاد! میں اللہ کی نئی تخلیق ہوں اور تمہارے اعمال کا گواہ، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ زادراہ لے سکتے ہو لے لو، میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔“

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مومن کو دو دھڑ کے لگے رہتے ہیں، ایک اس کا ماضی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے کیا نتائج ظاہر کرے گا اور دوسرا اس کا مستقبل جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنی جان کی خاطر اپنی جان کو، آخرت کی خاطر دنیا کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زندگی کو کام میں لانا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ٹال مٹول شیطان کا شعار ہے جس کو وہ مسلمانوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے۔ امام ابن جوزیؒ فرماتے ہیں کہ عمر کے سانسوں میں سے ہر سانس ایک نفیس جو ہر ہے جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

## کل کا تصور

ہماری زندگی میں ”کل“ (آئندہ آنے والا دن یا زمانہ) کا لفظ بھی ایک دھوکا ہے جو انسان کو وقت ضائع کرنے کی شرم اور افسوس سے بچاتا رہتا ہے۔ انسان کی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ”کل“ کے لفظ کی طرح اتنے گناہوں، اتنی حماقتوں، اتنی وعدہ خلافیوں، اتنی بے جا امیدوں، اتنی غفلتوں، اتنی بے پرائیوں اور اتنی برباد ہونے والی زندگیوں کے لیے جواب دہ ہو، کیوں کہ اس کی آنے والی ”کل“، یعنی ”فردا“ کبھی نہیں آتی۔ وقت ایک دفعہ گزر گیا، مر گیا، تو اس کو پڑا رہنے دو۔ اب اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ سوائے اس کے کہ اس کی قبر پر آنسو بہاؤ۔ آج کی طرف لوٹ آؤ مگر لوگ اس کی طرف نہیں لوٹتے اور عملاً ”فردا“ (آنے والا کل) کو کبھی ”امروز“ (آج کا دن) نہیں ہونے دیتے۔

داناؤں کے رجسٹروں میں ”کل“ کا لفظ کہیں نہیں ملتا، البتہ بے وقوفوں کی جنتزیوں میں یہ

بکثرت مل سکتا ہے۔ یہ تو محض بچوں کا بہلاوا ہے کہ فلاں کھلونا تم کو کل دے دیا جائے گا۔ کل کا لفظ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو صبح سے شام تک خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور شام سے صبح تک خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ کامیابی کی شاہراہ پر بے شمار پانچ سسکتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام عمر ”کل“ کا تعاقب کرتے ہوئے ضائع کر دی اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود لی ہے۔ ہم اسی دھوکے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کہ ”کل“ ہمارے لیے اچھی اچھی نعمتیں اور فائدہ مند ایشیا لائے گا مگر وہ تو آتا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور رویہ ”پھر کبھی“ کا ہے، جو کام مکمل ہو سکتا ہے وہ آج کیوں کریں اور آنے والا ”کل“ خود کام کے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا۔ یہ رویہ یقیناً ہم لوگوں کے لیے بحیثیت فرد، بحیثیت قوم اور بحیثیت امت نقصان دہ ہے۔

اہم اور ضروری نوعیت کے کام جن کی تکمیل سے ہمارا ذاتی، معاشی، معاشرتی اور قومی مفاد وابستہ ہے، ہم خواہ مخواہ ملتوی کر لیتے ہیں اور ان کی بجائے ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن کی بہت ضرورت نہیں ہوتی۔ بس ہم اس لیے دوسرے کام کرنے لگتے ہیں کہ اس میں لذت ملتی ہے، طبیعت کے تساہل کو عذر فراہم ہو جاتا ہے، اور اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے۔ ٹال مٹول کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب کام کا وقت آئے گا، اس وقت دیکھ لیں گے۔ آج اس معاملے میں پریشان ہو کر اپنے دن کو کیوں خراب کریں۔ جب دباؤ آئے گا تو سب کام ہو جائیں گے۔

بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آخری لمحے میں کام کریں۔ اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ جیسے عید کی رات کو خریداری، انکم ٹیکس کی ادائیگی کی آخری تاریخ کو گوشوارہ بنانا، بجلی، گیس، ٹیلی فون کا بل آخری تاریخ کو جمع کرنا وغیرہ۔ شاید اس انداز سے وہ خود تکلیف اٹھا کر اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر مزالینے کی کوشش کرتے ہیں؟

کچھ لوگوں کی زندگی کی ترجیحات ہی واضح نہیں ہوتیں۔ جب منزل متعین نہ ہو تو سفر کیسے طے ہوگا۔ امام ابن جوزیٰ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر صرفرا کی زیادتی کا مریض سکنجبین پینے کے بجائے سکنجبین بنانے کی ترکیب سیکھنے میں عمر برباد کر دے تو وہ یقیناً دھوکے میں مبتلا ہے۔ آگے فرمایا: ”خوش قسمت وہ ہے، جو اپنی اہم ضرورت کو حاصل کرے، دوسری کو چھوڑ دے، عمل کی طرف توجہ

کرے اور اسی کو مقصود اصل جانے۔‘ (یعنی آج کی زبان میں ترجیحات کا تعین کرے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے)۔

## ہماری مسلسل زندگی پر تساہل کے اثرات

تساهل ایک غیر محسوس بیماری اور خود ملامتی سے بھرپور نشہ ہے۔ اس سے انسان لذت لیتا ہے۔ یہ انفرادی مرض بھی ہے، معاشرتی بھی اور قومی بھی۔ اس کے اثرات بھی سخت ہیں۔ ذیل میں اس موضوع کے دو ماہرین جین بی برکا اور لینورا ایم یو آن کی کتاب Procrastination سے ان اثرات کی فہرست دی جا رہی ہے۔

### ممکنہ خارجی اثرات

- اعتماد اور عزت میں کمی،
- دوستوں اور اہل خاندان کے ساتھ تنازعات،
- ساتھیوں اور ہم عصر افراد سے اختلاف و ناراضی،
- افسر بالا سے اختلاف و ناراضی،
- ملازمت کا نقصان یا بے دخلی،
- سرکاری جرمانے،
- مالیاتی نقصان،
- حادثات یا جسمانی تکلیف۔

### ممکنہ داخلی اثرات

- احساس کمتری،
- شرمندگی اور پشیمانی،
- یکسوئی کا نہ ہونا،
- سرگرمیوں میں شریک نہ ہونا،

- خود ملاتنی،
- اضطراب،
- گھٹن،
- جسمانی تکلیف یا بیماری،
- تنہائی پسندی۔

### تساہل کے اثرات — اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے

کیا آپ سستی، کاہلی، ٹال مٹول کے شکار ہیں۔ اگر ہیں اور اندیشہ ہے کہ کسی انداز سے آپ اس مسئلے سے دوچار ہوں گے تو پھر اپنی ذات کے مفاد میں جائزہ لیں کہ اس وجہ سے آپ کی داخلی اور خارجی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔

اس جائزے کے لیے اگلے صفحے پر دیے گئے چارٹ سے مدد لیجیے۔

### چارٹ 1

مکنہ داخلی اثرات	مکنہ خارجی اثرات	شمار



## ذرا ہمت کیجیے

ہم تساہل کی اس بیماری کے باعث اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور نہ دنیا بناتے ہیں۔ زندگی میں ناکامی زنجیروں کی طرح پیروں کو جکڑ لیتی ہے اور حسرت اور ملامتیں مستقبل کا سامان بن جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سوتے کو جگانا آسان اور جاگنے کو جگانا مشکل ہے۔ ہم اور آپ جاگ رہے ہیں مگر بستر سے اٹھ نہیں رہے۔ ہمیں جاگنا ہے اور مقصد حیات کے حصول کے لیے کام کرنا ہے۔ دنیا میں دو چیزوں کے وقت کا پتا نہیں چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رات کو نیند کب آئی۔ دوسرے کسی قوم کا زوال کب شروع ہوا۔ یہ اس قوم کو پتا نہیں چلتا البتہ اس کے نقصانات آئندہ نسلوں کو پہنچتے ہیں۔ ہمارے زوال اور انحطاط کی بہت بڑی وجہ یہ تساہل اور کاہلی ہے، نااہلی ہے، عدم توجہی ہے اور مقصد کے شعور کی کمی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھر کے معاملات سے لے کر قومی معاملات تک میں الجھاؤ ہے۔ منوں کے کام مہینوں میں بھی نہیں ہوتے اور ہم خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اپنی ذات کا جائزہ لیجیے، پھر اپنے گھر کا، پھر اپنے ادارے، معاشرے، بلدیاتی، صوبائی اور وفاقی حکومت کا، ہر سطح پر ہمیں اور آپ کو تساہل اور سست روی کا سامنا ہے۔ یہ قومی بیماری زوال کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بیماری اور نشہ ہیروئن اور ایفون سے کچھ کم نہیں ہے۔ سنائی (Tsunami) کا طوفان تو سمندر کے اندر سے اٹھ کر ساحلی علاقوں کو تباہ کرتا ہے، لیکن یہ سستی اور کاہلی کا سیلاب اور طوفان کسی دریا اور سمندر کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قوموں کے اندر اُبھرتا ہے اور غیر محسوس طریقے سے پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔

## تساهل کی خطرناک علامات

یہ وہ خطرناک علامات ہیں جو چہرے کی مانند آپ کے کام اور رویے سے لوگوں کو پتا چل جاتی ہیں:

1- اگر آپ تساہل کا شکار ہیں تو آپ کی شخصیت غیر منظم اور غیر مربوط ہو جاتی ہے اور اس کی واضح علامات یہ ہوتی ہیں:

الف: آپ اہم، فوری اور ترجیحات کے معاملے میں تفریق نہیں کر سکتے۔ بہت سے کام ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اپنا وقت اور توانائی آپ آرام دہ اور آسان کاموں میں لگاتے ہیں۔

ب: جو لوگ تساہل کا شکار ہیں وہ عدم توجہی اور یکسوئی کی کمی کے شکار ہوتے ہیں۔  
ج: تساہل کے شکار لوگ بہت سارے معاملات اپنی یادداشت پر چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں یادداشت کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت میں کاموں اور ذمے داریوں کو بھولنے کے عادی بن جاتے ہیں۔

د: زندگی میں کاموں کی اور ذمہ داریوں کی فہرست طویل تر ہو جاتی ہے جس پر عمل درآمد بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ ایسے میں کام کا بڑھتا ہوا دباؤ بے اختیاری اور بے بسی کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔

2- وقت اور اس کے استعمال کے معاملے میں غیر حقیقت پسند ہونا، اپنے معاملات اور منصوبوں (Projects) کے حوالے سے غیر واضح ہونا، اپنے اوقات کا صحیح استعمال نہ کرنا، تاخیر سے آنا، دفتر میں دیر تک بیٹھے رہنا، گھر پر کام لے جانا اور پھر کچھ نہ کرنا، گھر والوں کے ساتھ منصوبے بنانا اور پھر تھک جانا یا سو جانا یا طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنالینا۔

3- زندگی کے مقاصد اور اقدار کے معاملے میں واضح سوچ نہ رکھنا، اس معاملے میں غیر ذمے دار ہونا۔

4- اپنے آپ کو ہمیشہ مضطرب محسوس کرنا۔ ڈیپریشن میں مبتلا ہونا، پریشان ہونا، خود ملاتی کا شکار ہونا۔

5- فیصلہ نہ کرنا اور غلطیوں کا خوف کرنا اور اس خوف کے باعث آگے نہ بڑھنا۔

6- اپنی عزت نفس کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہونا اور دوسروں کو موقع دینا کہ وہ آپ کو نصیحت کرتے رہیں۔

7- اکملیت پسندی (Perfectionism) کی خواہش آپ کو کوئی نام نہیں کرنے دیتی، جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے۔

8- نتیجتاً کاہل اور سست شخص معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔

یہ وہ خطرناک علامات ہیں جو آپ کی ملازمت، کاروبار اور گھریلو زندگی میں آپ کی بقا، سکون اور ترقی میں حائل ہیں۔ ان سے بچنے کی کوشش کیجیے، انہیں کم کرنے کی کوشش کیجیے یا پھر ان کا علاج کریں۔ آپ کی بقا، ترقی اور کامیابی کے لیے اس بیماری کا علاج ضروری ہے۔

اگر آپ نے علاج نہ کیا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ:

جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی

اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے

## تساہل کی اقسام

بعض ماہرین نے تساہل کی تین اقسام کی نشاندہی کی ہے:

- 1- اپنی ذات کی بھلائی، ترقی اور کامیابی کے معاملے میں تساہل۔
- 2- اپنی زندگی، معیشت، گھر، کاروبار اور سماج کے معاملات سے متعلق عام کاموں میں تساہل اور کاہلی والا رویہ۔
- 3- دوسروں کے معاملے میں غیر ذمے دارانہ رویہ۔

### 1- اپنی ذات

کچھ لوگ باصلاحیت اور ہنرمند ہوتے ہیں، مگر اپنی زندگی کا نصب العین اور مقاصد کا تعین نہیں کرتے۔ کھلی آنکھوں سے کامیابی کا خواب دیکھتے ہیں اور تصورات میں ہی لطف لیتے رہتے ہیں مگر عمل کی دنیا میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری ان کے لیے اور ان کی ترقی و کامیابی کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔

### 2- زندگی کے معاملات

گھر کے کام کاج، معاونت، دفتر کے امور، فائلیں وغیرہ، سماج کے تقاضے اور شرکت کے معاملے میں ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بوجھ اور مشکل بن جاتی ہو۔ اس عادت کے باعث گھریلو، دفتری اور کاروباری جھگڑے پیدا ہوئے ہیں۔

### 3- دوسروں کے معاملے میں ذمے داری

آپ اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے معاملے میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وعدہ خلافی، وقت پر نہ پہنچنا، ادھار لے کر مقرر وقت پر واپس نہ کرنا، یہ چیزیں آپ کی شخصیت کے تصور (Image) اور وقار کو نقصان پہنچائیں گی۔

## تساہل کے شعبے

زندگی سے سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ تشخیص کریں کہ یہ مرض کن کن صورتوں میں ہمارے معمولات میں داخل ہے۔ ماہرین نے تساہل کی کیفیات اور رویوں کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔ یہ فہرست آپ کو اپنی ذات کا جائزہ لینے کا موقع دے گی کہ آپ کن معاملات میں تساہل کا شکار ہیں اور کن معاملات میں مستعد۔

### 1- گھریلو امور

- چھوٹے چھوٹے کام کاج اور مرمت کے کام،
- مزدور اور مستری کو بلانا،
- خراب اور غیر ضروری سامان کی واپسی،
- گھر کے بڑے کام،
- گاڑی کی دیکھ بھال اور مرمت،
- گھریلو ضروریات اور سہولیات کے بلوں کی ادائیگی،
- ساز و سامان کی خرید،
- بیوی بچوں کے ضروری کام کاج کرنا،

### 2- دفتری امور

- دفتر وقت پر پہنچنا،
- مینٹنگ کے لیے وقت کی پابندی سے پہنچنا،
- کاروباری فون باقاعدگی سے کرنا،
- فیصلے کرنا،
- کاغذی امور بہتر طریقے سے نمٹانا،
- رپورٹس وغیرہ تحریر کرنا،
- افراد کے مسائل پر گفتگو کرنا،

- اچھی کارکردگی پر افراد کی حوصلہ افزائی کرنا،
- تخلیقی خیالات اور تجاویز کو قابل عمل بنانا،
- گاہکوں کو اپنی خدمات اور تجارت کے بل بھیجنا،
- اپنے لیے تنخواہ میں اضافے اور ترقی کے لیے بات کرنا،
- اپنے افسر کے ساتھ متعلقہ معاملات پر گفتگو کے لیے میٹنگ کرنا۔

### 3- ذاتی امور

- جسمانی ورزش کرنا،
- وزن کم کرنے کے طریقے اپنانا،
- سگریٹ یا نشہ آور چیزوں کو ترک کرنا،
- طبی مشورے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا،
- حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل کرنا،
- بال بنانا،
- ذاتی دلچسپی کے حوالے سے مطالعہ کرنا،
- مشاغل اور دلچسپی کے امور کو انجام دینے کی کوشش کرنا،
- ذاتی دلچسپی کے معاملے میں مختلف کورسز میں شرکت کرنا۔

### 4- سماجی تعلقات

- دوستوں سے ملاقات کرنا یا فون کرنا،
- خط و کتابت کرنا،
- افراد کو مدعو کرنا،
- رشتے داروں کے ہاں ملاقات کی غرض سے جانا،
- رشتے داروں سے خط و کتابت یا فون پر رابطہ،
- مختلف امور میں ہدیہ تبریک پیش کرنا،

- تھکے اور کارڈز بھیجنا،
- سماجی اور معاشرتی امور کے لیے وقت پر پہنچنا،
- مدد اور استعانت کے لیے درخواست کرنا،
- افراد کو یہ بتانا کہ آپ غصے میں ہیں یا ناراض ہیں،
- غیر مفید تعلقات کو ختم کرنا۔

#### 5- مالیاتی امور

- آنکم ٹیکس کے گوشوارے بھرنا،
- آمدنی و خرچ کا مناسب حساب رکھنا،
- اپنے وسائل کا بجٹ بنانا،
- بچت کی سرمایہ کاری کرنا،
- بینک سے گوشوارے یا دیگر متعلقہ امور کے سلسلے میں رابطہ کرنا،
- مختلف قسم کے بلوں کی ادائیگی،
- مختلف اداروں کے قرضوں کی واپسی،
- ذاتی قرضوں کی واپسی،
- مختلف قرض داروں سے رقم جمع کرنا اور یاد دہانی کرانا،
- ریڈیو، ٹی وی کی لائسنس فیس، گاڑی ٹیکس اور متعلقہ واجبات ادا کرنا،
- اپنی چیک بک کا جائزہ لینا۔

#### 6- دیگر امور

- ان کے علاوہ بھی چند امور ایسے ہیں جن کی ہمارے معاشرے کے تناظر میں بڑی اہمیت ہے:
- معاملات میں اگر غلطی یا زیادتی ہو جائے تو معافی مانگ لینا،
  - رشتے داروں کے ساتھ مختلف تنازعات کو نمٹانا،
  - دوستوں اور احباب سے ادھار حاصل کی گئی چیزوں کو واپس کرنا،

- حقوق اللہ کے معاملے میں کوتاہیوں کے سلسلے میں معافی اور توجہ،
- افراد سے تعزیت کرنا،
- مرحومین کے لیے دُعاے مغفرت کرنا،
- اپنے معاملات کی سہولت کے لیے دُعا کرنا،
- عیادت کے لیے جانا،
- احباب سے کیے گئے وعدوں کو ایفا کرنا،
- کسی فرد کی موت کے بعد وصیت اور وراثت کے معاملات کو نمٹانا۔

### تساهل کی چند مزید صورتیں

- ہماری عمومی زندگی میں تساهل چند مزید صورتوں میں آ موجود ہوتا ہے، جیسے:
- ہمارے عمومی کام اہم کاموں کے آگے آجاتے ہیں اور ہم ترجیحات کے معاملے میں اپنی ضرورت کا خیال نہیں رکھتے۔
- قومی ڈسپلن کی کمی کے باعث انتہائی اہم کاموں سے فرار کے لیے ہمیں ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں۔ ہم اپنے فرار اور ناکامی کا بوجھ خارجی وجوہات پر ڈالتے ہیں۔
- ہم زندگی کے اپنے مقرر کردہ اہداف تک اپنی اسی قسم کی کوتاہیوں کے باعث نہیں پہنچ سکتے۔ نتیجتاً ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں جس سے استعداد کار متاثر ہوتی ہے۔
- چونکہ ہماری قومی زندگی میں بنیادی فلسفے، تصورات، پالیسی، متعلقہ منصوبہ بندی اور افراد کار کے بہتر استعمال کی صلاحیت کی کمی ہے۔ لہذا قومی مزاج ہنگامی اور ایڈ ہاک ازم کا شکار ہو گیا ہے۔ حکومتیں اور ادارے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اجتماعی قومی نقصان کو نظر انداز کر کے اہم اقدامات کر لیتے ہیں جو ان کے وجود کو تو فوری طور پر قائم رکھتے ہیں مگر بحیثیت قوم ہم اپنی بنیادوں کو تباہ کرتے ہیں۔
- ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس کام کے لیے کوئی آخری تاریخ ہوتی ہے، ہم اسے آخری تاریخ کو ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کئی مواقع ایسے آتے ہیں جن میں اس کام کی نہ صرف منصوبہ بندی

بلکہ اصل کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔

• ہمارا مزاج اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ موسم برسات میں جب پانی جمع ہوتا ہے تو ہم پتھر رکھ کر راستہ بناتے ہیں۔ حالاں کہ اس معاملے میں انفرادی اور بلدیاتی کوششیں پہلے بھی ہو سکتی ہیں۔ پانی کی نکاسی کے ذرائع کی صفائی ہو سکتی ہے۔

• امتحانات کے دنوں میں وقفہ کرنے کے لیے چند گھنٹے تک فلمیں دیکھ لی جاتی ہیں یا دوستوں کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وقت چاہے چند منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، بہت قیمتی ہے۔ ہم اخبار پڑھنے لگتے ہیں، ناول پڑھ کر وقت گزار لیتے ہیں۔ اتوار کے دن گھر کے لیے سودا سلف کی ضرورت ہوتی ہے مگر اخبارات کو سودا سلف پر ترجیح دیتے ہیں۔ نتیجتاً گھر کے لیے بچی کھچی چیزیں آتی ہیں، حالاں کہ اخبارات تو سودا سلف کے بعد بھی پڑھے جاسکتے ہیں۔

• ٹیلی وژن کے چینل گھماتے رہتے ہیں اور انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹس (web sites) پر غیر ضروری وزٹ کرتے ہیں۔ بظاہر اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے مگر حقیقت میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے۔

## تساہل، سستی اور کاہلی کا جائزہ

آپ تساہل کا جائزہ چار طریقوں سے لے سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لی جاتی ہے کہ بیماری کی صورت میں آپ علاج کروانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کے کئی قسم کے ٹیسٹ کرواتا ہے۔ ہر ٹیسٹ کی شکل الگ ہوتی ہے۔ ان لیبارٹری جائزوں (tests) کے نتائج کی روشنی میں ڈاکٹر بیماری کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ پھر وہ ایک نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ جسے تشخیص (diagnosis) کہتے ہیں۔ تساہل کی تشخیص کے لیے ہم نے افراد کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا۔ پھر شعبہ جات کے نقطہ نظر سے۔ دو اور تجزیے ہیں، انہیں بھی آزمائیے۔

**اوقات کا جائزہ:** یعنی آپ کم از کم ایک ہفتے تک اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کن اوقات میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں چارٹ کا مطالعہ کریں اور اسے ایک ہفتے تک پُر کرنے کی کوشش کریں پھر خود تجزیہ کریں یا اپنے کسی بزرگ (mentor) سے مشورہ کریں۔



**کام/امور (function) کا جائزہ:** بعض کام/امور ایسے ہوتے ہیں جنہیں کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، یا آپ میں اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے اور اگر ہے تو کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے آپ نہیں کر پاتے۔

### ذاتی اور شعبہ جاتی تساہل

آپ نے تساہل کی شعبہ جاتی صورتوں کا مطالعہ کیا۔ اب سامنے دیے گئے چارٹ کی مدد سے آپ اپنے تساہل کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ سستی، کاہلی، ٹال مٹول اور تن آسانی کی صورتوں کو بڑے کالم میں لکھیں۔ دائیں طرف کے کالموں (1، 2، 3) میں آپ اقسام لکھیں گے اور بائیں طرف کے کالموں (A, B, C, D, E, F) میں شعبے تحریر کریں گے۔

## چارٹ-2

### تساهل کے تجزیہ کا چارٹ

F	E	D	C	B	A	سستی، کابلی، ٹال مٹول اور تن آسانی کی صورتیں	3	2	1

### چارٹ-3

آپ کن اوقات میں سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں

حل کی تجاویز	وجوہات	ایام						اوقات
		اتوار	ہفتہ	جمعہ	جمعرات	بدھ	منگل	
								علی الصبح
								05-06
								06-07
								07-08
								08-09
								دفتری و کاروباری اوقات
								09-10
								10-11
								11-12
								12-01
								01-03
								02-03
								03-04
								04-05
								05-06
								دفتر کے بعد اوقات
								06-07

حل کی تجاویز	وجوہات	ایام						اوقات
		اتوار	ہفتہ	جمعہ	جمعرات	بدھ	منگل	
								07-08
								08-09
								09-10
								10-11

جن اوقات میں آپ تساہل کرتے ہیں انہیں پنسل سے شیڈ کر لیں۔

## حل کی تجاویز

یہاں پر متعلقہ معاملے میں تجاویز تحریر کریں اور نوٹس کا حوالہ کالم ”حل کی تجاویز“ میں دیں۔

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## چارٹ-4

کن امور میں آپ سستی، کاہلی اور تساہل کا شکار ہوتے ہیں

حل کی صورت	کس وجہ سے	امور
1- گھر کے کام کاج		
		•
		•
		•
		•
		•
		•
		•
		•
2- دفتری امور		
		•
		•
		•
		•
		•
		•
		•
		•

3- صلاحیتوں کے معاملات		
		•
		•
		•
		•
		•
		•
4- بچوں اور گھروالوں کے معاملات		
		•
		•
		•
		•
		•
		•
5- سماجی و مذہبی معاملات		
		•
		•
		•
		•
		•
		•
		•

## چارٹ-5

تساهل کرنے والے افراد: آپ کہاں ہیں؟

کیا آپ متفق ہیں، ہاں/نہیں (اپنے لیے نوٹس بھی بنائیے)	نوعیت
	<p><b>طلبہ و طالبات</b></p> <p>– کلاس میں توجہ ویکسوٹی کے ساتھ نہ پڑھنا – گھر پر باقاعدگی سے نہ پڑھنا – کیریئر پلاننگ نہ کرنا – رات کو دیر تک ٹی وی اور انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرنا – دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرنا</p>
	<p><b>خواتین</b></p> <p>– گھر کو غیر منظم اور بے ترتیب رکھنا – بجٹ کے اندر نہ رہنا اور غیر ضروری اخراجات – وقت پر اور مناسب کھانا تیار نہ کرنا</p>
	<p><b>ملازمت پیشہ افراد</b></p> <p>– وقت پر نہ پہنچنا – معیاری کام کر کے نہ دینا – کام وقت پر نہ دینا – ذمے داریوں سے کترانا، اور فرار اختیار کرنا</p>
	<p><b>سرکاری ملازمین اور افسران</b></p> <p>– وقت پر نہ پہنچنا – ایمانداری کے ساتھ وقت نہ دینا – متبادل اور ذاتی کاروبار، زمینوں اور کارخانوں پر زیادہ وقت دینا – فائلوں کو دبا کر رکھنا اور اس کے لیے نوٹوں کے پہیوں کا انتظار کرنا</p>

	<p><b>کاروباری حضرات</b></p> <p>– کاروبار کی مناسب منصوبہ بندی نہ کرنا، بزنس پلان نہ بنانا  – کاروباری تحفظ کے لیے قانونی کارروائی نہ کرنا  – کاروباری معاہدے نہ کرنا، خاندانی بزنس میں شرکت کے اصول اور قاعدے طے نہ کرنا  – کاروباری وعدے پورے نہ کرنا</p>
	<p><b>سماجی کارکن / ارہنما</b></p> <p>– سماج اور فلاحی کام کو اپنی عزت، شہرت اور دولت کا ذریعہ بنانا  – صرف اسٹیج پر آنا اور فیلڈ کا کام نہ کرنا  – حسابات صحیح طرح سے نہ بنانا  – اثاثے اور وسائل کا غلط استعمال کرنا  – ملاقاتوں اور تعلقات بڑھانے ہی میں وقت صرف کرنا</p>
	<p><b>داعیان دین</b></p> <p>– دفنوں میں زیادہ وقت لگانا  – ضرورت سے زیادہ سونا  – اپنے آپ کو بزرگ اور دیندار سمجھ کر خدمت الناس کے کام نہ کرنا  – خود پسندی کے باعث اور عجب (برتری کے احساس) کی وجہ سے لوگوں سے خونخواہ کے اختلافات اور جھگڑے کرنا</p>
	<p><b>عام افراد</b></p> <p>– وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت نہ جاننا  – اخبارات، ٹی وی، کرکٹ اور دیگر امور جیسے ہڑتالوں اور سیاسی معاملات پر طویل گفتگو کرنا  – بات بات پر اپنی انا کی خاطر لڑنا، جھگڑنا</p>



## تساہل کے معاملے میں آپ کے عذرات

ہم تساہل کے معاملے میں اپنے آپ کو مندرجہ ذیل عذرات سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے باوجود اپنے آپ کو پھر بھی حق پر سمجھتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس انداز سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں:

- ”کام کرنے کے لیے مناسب ساز و سامان نہیں ہے۔ تحریری کام تو عموماً نیلے رنگ کی روشنائی سے کرتے ہیں۔ میرے پاس تو سیاہ روشنائی کا قلم تھا۔ اس لیے کام نہیں ہو سکا۔“
- ”منی بس میں تو جانوروں کی طرح بٹھاتے ہیں جب کہ رکشا ٹیکسی کی ہڑتال تھی۔ اس لیے کام نہیں ہو سکا۔“

• ”کافی دیر سے کام کر رہا ہوں بس اب آرام کی ضرورت ہے۔“

• ”قوت محرم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔“

• ”یہ تو ہفتے کے آخری ایام ہیں اب اس ہفتے میں کام کی ابتدا کا کیا فائدہ!“

• ”پوچھا کیوں جائے حالال کہ جواب تو ہمیں پتا ہے ”نہ“ ہی میں ہوگا۔“

دو چھوٹے سے واقعات ہیں جن سے تساہل سے گریز کرنے والے ذمے دار افراد کا کردار سامنے آتا ہے:

دفتر میں شام کے اوقات میں اچانک ٹیلی فون کا ایک پیغام تحریر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ صاحب پینسل یا قلم ڈھونڈتے رہے۔ نہیں ملی۔ اب وہ پیغام سن کر یادداشت کے ذریعے دوسرے روز کہہ سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ٹائپسٹ کی میز پر کاربن پڑا ہوا تھا۔ روڈی کی ٹوکری سے کاغذ اٹھایا اور ماچس کی تیلی یا کسی نوکیلی چیز سے کاربن پر تحریر کیا جس کا اثر کاغذ پر آ گیا۔ درحقیقت یہ ذہانت، احساس ذمہ داری اور تساہل سے گریز کی علامت ہے۔

ایک صاحب اپنے نئے فلیٹ میں منتقل ہوئے۔ دوسرے روز صبح سویرے اخبار والے نے دروازے پر دستک دی:

”آپ اخبار لیں گے۔“

ان صاحب نے اخبار والے سے پوچھا: ”آپ کو پتا کیسے چلا کہ ہم رہنے کے لیے آگئے ہیں۔“

ہا کرنے جواب دیا: ”آپ کی بالکنی میں کپڑے لٹک رہے تھے۔“  
ان صاحب کو اس کے اس احساس کی قدر ہوئی اور اخبار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اخبار والا یہ بھی  
کر سکتا تھا کہ آج تو پہلا ہی دن ہے ”کل“ پوچھ لیں گے۔ نئے نئے آئے ہیں تھکے ہوئے ہوں  
گے۔ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اخبار کا سلسلہ کسی اور ہا کر سے شروع ہو جاتا اور وہ ہا کر ایک موقع  
ضائع کر دیتا۔

## تساہل سے گریز کی چند صورتیں

- ہمارے یہاں یقیناً اس کردار کی کمی نہیں ہے لیکن ایسے کردار بہت کم ملتے ہیں۔ عملی زندگی میں  
تساہل سے گریز کی چند مزید صورتیں اور رویے یہ ہیں:
- ”ممکن ہے کہ کام کے اچھے نتائج نہ ہوں۔ مگر ذمہ داری دی گئی ہے لہذا پورا کر لیا جائے۔ کل کا  
انتظار کیوں کروں، آج ہی کروں۔“
  - ”آج تو بہت تھکا ہوا ہوں۔ بس آدھے گھنٹے تک یہ کام کر کے اچھی نیند کروں گا۔“
  - ”اوہ! آج تو ٹی وی پر میری پسند کا پروگرام ہے۔ ابھی پندرہ منٹ ہیں۔ پھر پانچ منٹ کے  
اشتبہار۔ چلو ان بیس منٹوں میں یہ چھوٹے چھوٹے کام نمٹالوں۔“
  - ”کام کے لیے ساز و سامان نہیں۔ دیکھیں کسی اور ترکیب سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔“
  - ”آج تو ہفتے کا آخری دن ہے۔ اب یہ کام اس ہفتے میں تو نہیں ہوتا۔ چلیں ابتدا تو کر لیں۔“

## سستی اور کاہلی کی وجوہات

ہم تساہل کیوں کرتے ہیں۔ ہمارے اجتماعی مزاج میں تساہل کی وجوہات اور عناصر کے  
جائزے کی ضرورت ہے۔ ذیل میں ایک تجزیہ کیا گیا ہے۔ جن اشارات سے آپ متفق ہیں ان پر  
صحیح (✓) کا نشان لگا دیں۔

### ترجیحات کے شعور کی کمی

ہمارے عمومی کام جو بعض وجوہات کی بنا پر فوری نوعیت کے ہو جاتے ہیں جن کے باعث ہمارے اہم کام متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں ترجیحات متعین کرنے کا شعور نہیں ہے۔

### ناکامی کا خوف

تسائل کی ایک بہت بڑی وجہ ناکامی کا خوف ہے۔ ہم دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے کے خوف سے اپنے اہم امور کو ٹالتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کسی طالب علم نے یہ سوچ لیا ہو کہ اسے میٹرک کے امتحان میں پہلی پوزیشن لینا ہے۔ بس یہ خوف کہ وہ امتحان کی ایسی تیاری نہیں کر سکا، لہذا پہلی پوزیشن نہیں آسکتی۔ نتیجتاً وہ امتحان ہی نہ دے۔ یہ خوف تو ہمیں تباہ کر دے گا۔ زندگی ایک عظیم مقابلہ ہے جس میں کروڑوں افراد ہم سے بہتر ہیں اور ہم کروڑوں افراد سے بہتر ہیں۔ مقابلے سے فرار کیوں اختیار کریں۔ اتنی تو جرأت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں۔ کامیاب فرد کو مبارکباد دے دیں۔ پھر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں اور صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں۔

### اپنے بارے میں اعلیٰ تصور

اپنے بارے میں بہت اعلیٰ تصور قائم کر لینا اور کام اس لحاظ سے ملتی کرنا کہ وہ اس اعلیٰ تصور کے مطابق نہیں ہے۔

### غلطیوں سے مبرا سمجھنا

اپنے آپ کو فرشتہ صفت انسان سمجھنا اور غلطیوں سے مبرا محسوس کرنا۔ بغیر غلطیوں کے کام کرنے کا عزم رکھنا۔ اس صورت میں آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے۔

### خود کو ناگزیر سمجھنا

ہم ہر کام خود کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناگزیر ہیں۔ جب تک کام خود نہیں کریں گے، کام نہیں ہوگا۔ یہ تصور غلط ہے۔ ہمیں اپنے ماتحت افراد کو تیار کرنا ہوگا۔ ہم اپنے اداروں کے معاملے میں

اداروں اور اپنے ساتھیوں کے مقروض ہیں۔ تربیت ہی یہ فرض ادا کر سکتی ہے۔

### □ اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہونا اور غصہ کرنا

غصہ اور ناراضگی کا اظہار پشیمانی پیدا کرتا ہے۔ پھر ہم احساس ندامت کے باعث کم از کم اس دن اور اس فرد کے لیے کام کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔

### □ مطلوبہ صلاحیتوں کی کمی

صلاحیتوں کی کمی بھی تساہل پیدا کرتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں اور ادارے کی ضروریات میں توازن ہونا چاہیے۔

### □ پھیبہ اپنے طور پر ایجاد نہ کیجیے

جب پھیبہ ایجاد ہو چکا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اپنے طور پر پیسے کو بنانے کے لیے تحقیق میں وقت صرف مت کیجیے۔ جو کام ہو چکے ہیں، انہیں ردمت کیجیے بلکہ بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ دوسروں کی غلطیوں سے سبق لیجیے اور تجربات سے فائدہ اٹھائیے۔

### □ زندگی اور موت کے معاملے میں صحیح تصور کا نہ ہونا

تساهل کی بہت بڑی وجہ جس کا شعور ہو جائے تو ہم اس عادت کا علاج بھی کر سکیں گے، وہ زندگی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور ہے۔ وقت ہی کو زندگی سمجھنا اور اس معاملے میں خوف خدا رکھنا اور آخرت میں جواب دہی کا احساس رکھنا کہ یقیناً ہم سے ہمارے وقت کا، ہماری صلاحیتوں کا، ہمارے مال و دولت کا، ہمارے اہل و عیال کا ضرور سوال ہوگا۔ اس احساس کے ساتھ دیکھیے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔

## علاج، حقائق، احساس اور مشورے

### چند حقائق

کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک کام کرنے کا مستحکم ارادہ کیا ہوا ہو اور مکمل منصوبہ بندی بھی کر لی ہو مگر عمل درآمد میں تھوڑی سی تاخیر کی وجہ سے کسی اور فرد نے یہ کام آپ سے پہلے کر لیا ہو۔ نتیجتاً آپ اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکے ہوں اور دوسرے افراد ترقی کر گئے ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ کا کاروبار شروع ہوا تو اس کی ابتدا کرنے والے کسی وجہ سے اپنے حقوق سرکاری ادارے میں رجسٹر نہ کر اسکے۔ کسی اور صاحب نے ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے نام وہی پیٹنٹ رجسٹر کرالیا اور اصلی مالکان کو قانونی نوٹس دے دیا۔ اصل مالکان نے لاکھ کوشش کی اور پیشکش بھی کی مگر دعوے دار نہیں مانے اور اصل مالکان کو اپنی پروڈکٹ بند کرنی پڑی۔ گو کہ دعوے دار نے ظلم کیا مگر اصل مالکان کو اپنی کاہلی کی سزا ملی۔ رجسٹریشن تو وکیل کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتی تھی مگر یہ تو سابل تھا جس کے باعث اصل مالکان کو اتنا بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ہم اپنی کاہلی اور سستی یا ٹالنے کی عادت کے باعث زندگی میں مالی نقصان اٹھاتے ہیں، دوستوں اور خیر خواہوں سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں، افسران کی ناراضگی مول لیتے ہیں، اعتماد اور عزت کھو دیتے ہیں، اہل خاندان اور رشتے داروں کے ساتھ تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں، حادثات اور تکالیف کا شکار ہو جاتے ہیں، اہل خانہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور خود ان تمام واقعات کے باعث ایک شکست خوردہ شخصیت بن جاتے ہیں۔

اسی تساہل کے باعث ہم زندگی کے معمولی سے معمولی کاموں کو جن کے لیے عام طور پر صرف پانچ منٹ کافی ہوتے ہیں۔ برسوں ٹالتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اہم معاملات میں ان چھوٹے کاموں کی جانب بے توجہی، بڑے نقصان سے دوچار کر دیتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مطمئن کر لیتا ہے اور انتہائی اہم امور سے فرار کے لیے ہزاروں بہانے تلاش کر لیتا ہے۔

### شخصی عناصر جن کے باعث ہم سست اور کاہل ہوتے ہیں

سستی اور کاہلی ایک بیماری ہے اور انتہائی نقصان دہ نشہ۔ اس کی وجوہات کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ زندگی کا نصب العین متعین نہ ہونا اور متعین ہے تو شعوری انداز سے نہ لینا۔ زندگی کے بارے میں مقاصد کا واضح نہ ہونا، ترجیحات کا متعین نہ ہونا، اہم اور فوری امور کے بارے میں شعور کی کمی، اطمینان اور کارکردگی کے تصور کی کمی، ناکامی کا خوف، اپنی ذات کا حقیقت سے بلند تصور، عموماً بغیر غلطی کے فرشتوں کی طرح کام کرنے کا سوچتے رہنا، افراد اور متعلقہ لوگوں کو کام تفویض نہ کرنا اور نہ ہی ان کی تربیت کرنا، اور حالات اور ضروریات کے مطابق مطلوبہ صلاحیتوں کی کمی اور ضعف ارادہ ہیں۔

یہ تساہل، انسانی زندگی میں ماڈی طور پر تو نقصان دہ ہے ہی مگر دین کے معاملے میں یہ تساہل بعض اوقات نفاق کی حدود تک لے جاتا ہے۔ نمازوں کے معاملے میں تساہل تو منافقوں کی علامات میں سے ایک ہے۔

تساہل ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج محض تصور کرنے سے نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ نفس کے خلاف ایک جہاد ہے جو کرنا ہوگا۔

بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا

### جائزہ لیجیے

ذرا اپنا جائزہ لیجیے کہ ماضی میں آپ کتنا وقت صرف فرصت و فراغت کے، اور حالات کی درستی

کے انتظار میں گزارتے رہے ہیں۔ ایک فہرست بنائیے کہ آج آپ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور اب تک کیا کچھ حاصل کر چکے ہیں۔ جو حاصل نہیں کر سکے اس کی قابل قبول وجوہات تھیں یا محض اپنی نفس پرستی، سستی، کاہلی اور خوف خدا کی کمی۔ تو پھر آئیے آج ہم اپنے نفس کو غفلت سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا سخت حساب کتاب کر لیں اور اپنے نفس اور ذہن و جسم کی حرکات و سکنات اور اس کے رجحانات پر کڑی نگاہ رکھیں۔

امام ابن جوزی فرماتے ہیں ”جب بندہ صبح کے فریضے سے فارغ ہو جائے تو چاہیے کہ کچھ دیر اپنے دل کو فارغ کرے اور اپنے نفس سے شرائط طے کرے اور کہے: اے نفس! میرے پاس سرمایہ صرف زندگی ہے۔ اگر میرا یہ سرمایہ ہو گیا تو تجارت اور منافع سے مایوسی ہو جائے گی۔ یہ ایک نیا دن ہے جس میں اللہ نے مجھے مہلت دی ہے اور میری موت کو مؤخر کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر وہ مجھے دنیا سے اٹھا لیتا تو میں تمنا کرتا کہ زندگی کی کچھ مہلت اور عطا کر دے تاکہ میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ تو اے نفس! یہی سمجھ کہ تو فوت ہو چکا ہے اور پھر تجھے واپس کیا گیا ہے۔ اس دن کو ضائع کرنے سے بچ جا اور جان لے کہ دن رات میں چوبیس گھنٹے ہیں اور یوں سمجھ لے کہ بندے کے لیے ہر روز چوبیس الماریاں قطار در قطار رکھی ہیں۔ قیامت کے دن یہ الماریاں کھولی جائیں گی اور اللہ ہر گھنٹے میں کمائی ہوئی نیکیوں کو دیکھے گا۔ اگر یہ نیکیوں کے نور سے بھری ہوں گی تو اسے اتنی خوشی ہوگی کہ اگر وہ دوزخیوں پر تقسیم کی جائے تو حیرانی کی وجہ سے ان کو آگ کی تکلیف کا احساس نہ رہے۔ اگر بد قسمتی سے صورت حال دوسری ہوئی یعنی کوئی شخص نیکیوں کی بجائے برائیوں میں پھنسا رہا، تو نور کی جگہ اندھیرا ہوگا اور تعفن پھیلے گا اور وہ گھنٹہ جس میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اسے عذاب الیم سے ہمکنار کر دے گا۔ اسے اتنی گھبراہٹ اور ذلت محسوس ہوگی کہ اگر وہ تمام جنیتوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی نعمتیں مکدر ہو جائیں۔

بے عمل لوگوں کے لیے ایک اور خزانہ کھولا جائے گا جو خالی ہوگا۔ نہ اس میں کوئی خوشی کی بات ہوگی، نہ غمی کی۔ یہ وہ گھنٹہ ہوگا جس میں یہ لوگ سوئے رہے تھے (یعنی وقت ضائع کر رہے تھے)۔ ان میں سے ہر شخص اس کے خالی ہونے پر افسوس کرے گا اور اسے ایسا دکھ ہوگا جیسا کہ اس آدمی کو جو بہت سامنا حاصل کرنے پر قادر تھا لیکن موقع ضائع کر کے اس سے محروم ہو گیا۔

ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس سے کہے: ”آج کے دن کوشش کر کے ہر الماری کو نیک اعمال سے بھر، ایک کو بھی خالی نہ چھوڑ۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے علیین کے درجات ضائع ہو جائیں اور دوسرے ان کو حاصل کر لیں۔“

شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اللہ سے بھلائی کی امید رکھے۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”قیامت کا حساب ہونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور اعمال کا وزن ہونے سے پہلے ان کو تولو اور بڑی پیشی کے لیے تیاری کرو۔ سورۃ الحاقہ میں ہے اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تم سے کوئی چیز مخفی نہ رہے گی۔ (منہاج القاصدین)۔“

جائزہ اور خود احتسابی

### سوالنامہ

اگلے صفحات پر دیے گئے چارٹ میں چند سوالات درج ہیں۔ ان کے جوابات کے کوئی نمبر نہیں ہیں مگر ان کے جوابات خود آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں۔ درحقیقت ان سوالات کے جواب ہی سستی اور کاہلی کے مرض پر پہلا حملہ ہے۔



## چارٹ-6

### جائزہ اور خود احتسابی

نمبر	سوال	جواب
1	میں کن کاموں میں مصروف ہوں جن میں مجھے سرے سے مصروف ہونے اور وقت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی؟	
2	میں وہ کون سے کام کر رہا/کر رہی ہوں جو مجھ سے بہتر دوسرے افراد کرتے ہیں؟	
3	کیا میں اپنے کاموں اور معاملات کی صحیح ترجیحات مقرر کر رہا/کر رہی ہوں؟	
4	اس وقت میرے وقت کا صحیح مصرف اور بہترین استعمال کیا ہے؟	
5	مجھے اپنا وقت کہاں صرف کرنا چاہیے؟	
6	میرے اہم اور بڑے بڑے تفصیح اوقات کیا ہیں؟	
7	اپنے اوقات سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا/سکتی ہوں؟	
8	کیا آج کے دن کے معمولات انجام دینا میرے کنٹرول میں ہے؟	

9	کیا میرے پاس روز کے کرنے کے کام اور ان کی ترجیحات تحریراً موجود ہیں؟
10	کیا میرے پاس ڈائری ہے اور اس میں روز کی منصوبہ بندی اور کارکردگی تحریر کرتا/کرتی ہوں؟
11	کیا میں ان کاموں کو ترک کرتا/کرتی ہوں، ٹالتا/ٹالتی ہوں جو مجھے پسند نہیں ہیں؟
12	کیا میں توجہ بٹانے والی باتوں اور غیر ضروری تقاضوں کے باعث تنگ ہو جاتا/ہو جاتی ہوں؟
13	کیا لوگ مجھے انتظار کراتے ہیں اور میں بھی لوگوں کو انتظار کراتا/کراتی ہوں؟
14	کیا وقت کے معمولات اور معاملات کے باعث میری سماجی اور گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے؟
15	کیا میں اپنی ذات کی بہتری اور ترقی کے لیے مناسب وقت نکالتا/نکالتی ہوں؟

## پہلی فہرست

آپ اپنی ذات کے ساتھ محبت اور دوستی اور اپنے ضمیر کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ایک فہرست تو بنائیے جس میں مندرجہ ذیل امور کے بارے میں آپ کی کاہلی اور سستی کی عادتیں اور صورتیں درج ہوں:

- اللہ تعالیٰ اور سنت رسولؐ کی پیروی
- حقوق العباد
- آخرت کی تیاری
- والدین، رشتے دار اور پڑوسی
- دوست احباب اور کاروباری، دفتری ساتھی
- گھریلو امور
- مالی امور
- اپنا کیریئر
- اپنی ذات

اب اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ مگر برق رفتاری اور چھلائیں لگا کر نہیں، اپنی طبیعت اور مزاج اور عادات کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے کے کام تحریر کیجیے۔ آہستہ آہستہ اور چھوٹے چھوٹے مراحل میں تبدیلی لائیے۔

## دوسری فہرست

اس کے علاوہ محض اپنی تربیت کے لیے ایک اور فہرست بنائیے۔ تمنائوں، ارادوں اور اس پر عمل پیرا ہونا اور نتائج پر اظہار کرنا زندگی کا ایک بہت بڑا مصرف ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ آپ کو دس سال تک زندگی مل جائے تو پھر آپ کیا کریں گے۔ یقیناً فہرست بنائیں گے۔ ہر سال کے لیے ایک کالم بنا کر طے کریں کہ یہ امور ان برسوں میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اُمید ہے آپ پچاس، ساٹھ امور کی فہرست بڑی آسانی کے ساتھ بنالیں گے۔

## تیسری فہرست

اب اس سوچ کی طرف آئیے کہ کسی نہ معلوم وجہ سے آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور آج کی رات قبر میں گزارنی ہے۔ اب وہ فہرست بنائیے کہ مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں۔

## لمحوں کی سستی، صدیوں کی سزا— ایک سبق آموز واقعہ

12 مارچ 1881ء کو زار روس نے ایک اعلیٰ پر دستخط کیے جس میں اس خواہش کا اظہار تھا کہ دستوری طرز حکومت کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے۔ اس کے دوسرے دن، جب اس اعلیٰ کا سرکاری اعلان بھی نہیں ہو پایا تھا، زار روس کو قتل کر دیا گیا۔

### میں جا ہی ڈھونڈتا، تیری محفل میں رہ گیا

ہمارے کتنے احباب اور رشتے دار بیماری کی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہوتے ہیں اور ہم عیادت کے لیے ٹال مٹول کرنے کے باعث ان کی خیریت دریافت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ زندگی میں کتنے ہی کام ایسے ہیں جو ہم سوچ اور منصوبہ بندی کی حد تک مکمل کر چکے ہوتے ہیں مگر عمل کے معاملے میں ہم کل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی راتیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم کسی کام کو کرنے سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کے بعد کام کریں گے مگر اس آرام میں صبح ہو جاتی ہے اور کتنے دن ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ شام جلد گھر پہنچ کر یہ کام کر لیں گے مگر سورج غروب ہو جاتا ہے اور وہ شام رات میں اور رات سحر میں ڈھل جاتی ہے۔

بس اس انتظار کے سورج تلے زندگی کی چھاؤں تپتی رہتی ہے اور اپنی اس عادت کے باعث تکالیف اور الجھنوں میں مبتلا رہتے ہیں۔

ہم زندگی کے اکثر معاملات میں کاہلی کا ثبوت دیتے ہیں۔ عہد جوانی میں حصول تعلیم، امتحان کی تیاری اور کیریئر کی منصوبہ بندی میں، آگے چل کر چیلنجز کو قبول کرنے کے معاملے میں، پھر میدان عمل میں اپنے جوہر اور کارکردگی کے اظہار کے معاملے میں۔ انسانی معاملات میں، اپنے جذبات اور احساسات کے اظہار کے معاملے میں، غرض مجموعی طور پر پوری زندگی میں تساہل کا شکار رہتے ہیں۔ ہم چاہے کسی پیشے سے متعلق ہوں، ہمارا اپنا مخصوص تساہل ہوگا۔ بقول آتش

آئے بھی لوگ، بیٹھے بھی، اُٹھ کر بھی چل دیے

میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا

تساہل کی یہ غلطی آخری عمر میں آپ کو احساس دلائے گی کہ ع

لمحوں نے غلطی کی، صدیوں نے سزا پائی

## تقابلی جائزہ

یقین جانیے یہ دونوں (دوسری اور تیسری) فہرستیں موازنے کے قابل ہی نہیں ہوں گی۔ ایک فہرست طول امل یعنی خواہشات سے بھری ہوئی ہوگی اور دوسری فہرست موت کی تیاری سے۔ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ ان دونوں فہرستوں میں توازن برقرار رکھتے ہوئے کوئی ایسی فہرست بنائیں جس میں آپ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا سامان تیار کر سکیں؟

## ایک حدیث کا مطالعہ

اس جائزہ کے بعد اب اس حدیث پر غور کیجیے:

حضرت جابرؓ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیز ہوئی اور طول امل ہے۔ (ہوئی سے مراد ہے دین و مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے اور طول امل یہ ہے کہ دنیوی زندگی کے بارے میں لمبی آرزوں کی دل میں پرورش کی جائے)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوف ناک بتلایا اور آگے اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ ہوئی تو آدمی کو قبول حق سے مانع ہوتی ہے (یعنی اپنے نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایت سے محروم رہتا ہے) اور طول امل (یعنی لمبی آرزوؤں میں دل کا پھنس جانا) آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ (اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا) یہ دنیا دم بہ دم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے (کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں) اور آخرت (ادھر سے) چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے اور ان دونوں کے بچے ہیں (یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے) بس اے لوگو! اگر تم کرسکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے نہ بنو (بلکہ اس دنیا کو دارالعمل سمجھو) تم اس وقت دارالعمل میں ہو (یہاں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے) اور یہاں حساب اور جزا و سزا نہیں ہے اور کل تم (یہاں سے کوچ کر کے) دارالآخرت

میں پہنچنے والے ہو اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا (بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔) (تہذیبی۔ معارف الحدیث)

### فضول اور لایعنی، لغو باتوں اور کاموں سے دور رہیے

ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم خود کو فضول اور لایعنی باتوں اور مشغولیات سے بچائیں۔ اللہ سے ڈریں کہ اللہ کا خوف اور تقویٰ، حکمت کا سرچشمہ ہے۔ موت کو یاد رکھیں کہ وہی آخرت کے سفر کی ابتدا ہے۔ زندگی سے کیا لے جائیں گے، چند گز کفن کا کپڑا۔

ہر شخص عدم سے تن عریاں لے کر  
شہر ہستی میں خریدار کفن آتا ہے

اور موت کے بعد ہماری آرام گاہ کتنی ہوگی۔ 2 فٹ چوڑی اور 6 فٹ لمبی۔ بس یہی اس دنیا کی یاد ہیں۔ اصل جواب تو آخرت میں دینا ہے۔ کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟

### قرآنی احکامات

اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

”اور آپ میرے بندوں سے فرما دیجیے کہ وہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو (اس میں کسی کی دل آزادی نہ ہوتی ہو) کیوں کہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔“ (بنی اسرائیل)

”اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ بے کار، لایعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔“ (مومنون)

”وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر اتفاقاً بیہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔“ (فرقان)

”اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔“ (قصص)

### احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

— آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور بیہودہ باتوں کو چھوڑ دے۔ (ترمذی)

— حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ دے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جسے مضبوطی سے پکڑے رہوں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ ”اس کو اپنے قابو میں رکھو“ (طبرانی)

— حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائیں جو اچھی بات کرے اور دنیا و آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائے یا خاموش رہے اور زبان کی لغزشوں سے بچ جائے۔ (بیہقی)

— حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ ایک بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دوسرے مال کو ضائع کرنا، تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ (بخاری)

— حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مومن میں پیدائشی طور پر ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں (خواہ اچھی ہوں یا بری) البتہ خیانت اور جھوٹ کی (بری) عادت نہیں ہو سکتی۔ (مسند احمد)

— حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرے۔ (ابوداؤد)

## اپنے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنائیے

اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ کا آج اچھا، خوشگوار اور گزشتہ کل سے بہتر ہو اور آپ کی تربیت بھی اس انداز سے ہو کہ ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہو اور ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من الستوی یوماہ فہو مغبون

تو شخص تباہ ہو گیا جس کے دو دن کا کردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔

اس حدیث کو ایک گراف کے ذریعے اگلے صفحے پر سمجھایا گیا ہے۔ اس میں عمودی لکیروں (vertical line) کے ذریعے کارکردگی کو تصوراتی نمبر دیئے گئے ہیں جبکہ افقی لکیروں (horizontal Line) کو ایک ہفتے کی مدت کی لائن بنایا گیا ہے۔ پھر دو خطوط کے ذریعے فلاح اور تباہی کی علامات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ انگریزی میں کسی نے اس بات کو اس طرح کہا ہے:

If you are as good as you were yesterday,  
you will not be good for tomorrow.

اے لوگو

انتہائی کوشش کے ساتھ جنت کے حریص بنو  
اور اپنی کوشش بھر جہنم سے بچنے کی فکر کرو  
کیونکہ

جنت ایسی چیز ہے جس کا چاہنے والا سو نہیں سکتا  
اور آگ ایسی چیز ہے جس سے بھاگنے والا سو نہیں سکتا

(حدیث)

جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے۔ وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو۔ اللہ کا سودا سستا نہیں ہے۔ بہت مہنگا اور قیمتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے۔ (حدیث۔ ترمذی)

### نعمتوں کو غنیمت سمجھیے


– نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پانچ کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو۔ موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کی گھڑی کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور فقر سے پہلے مالداری کو۔

– امام ترمذی نے کتاب الزہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ”دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ ایک صحت اور دوسری فراغت۔“



## کارکردگی ناپنے کا گراف

تباہ ہو گیا وہ شخص جس کے دو دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے۔



## ایکشن پلان: تجاویز

### صبح و شام، پلاننگ اور احتساب

صبح و شام چند لمحات نکالنے کے لیے جس میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچے اور اپنی نیت کا جائزہ لیجیے۔ منہاج القاصدین میں علامہ ابن جوزی تحریر کرتے ہیں کہ حضرت شبلیؒ، ابوالحسین نورئیؒ کے پاس گئے۔ وہ بالکل ساکن بیٹھے تھے۔ شبلیؒ نے ان سے پوچھا: ”آپ نے یہ مراقبہ اور سکون کس سے سیکھا ہے؟“ کہا ”اپنی بیٹی سے سیکھا ہے۔ جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو اپنے آپ کو اس طرح ساکن کر لیتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہیں کرتا۔“ بس صبح و شام میں چند لمحات نکال کر ذہنی و جسمانی طور پر اپنے آپ کو مرکوز کر لیجیے۔ اس قسم کا جائزہ یقیناً مفید ہوگا۔ اپنے تساہل کو آہستہ آہستہ ختم کیجیے۔

ایک غزوہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے آگے بیٹھے تھے اور مٹی پر اپنی انگشت مبارک سے کچھ لکھیں کھینچ رہے تھے۔ حدیث دفاع کے مصنف، میجر اکبر خاں کے مطابق درحقیقت یہ جنگی پلان تیار ہو رہا تھا۔ زندگی کے ہر معاملے میں پہلے سے سوچنا اور اس کی منصوبہ بندی کرنا نہ صرف حکمت کا حصہ بلکہ سنت نبویؐ ہے۔ ہم ایک موذی مرض اور نقصان دہ عادت سے اپنی شخصیت کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، یقیناً ہمیں اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔

انگریزی میں کہتے ہیں کہ

"If you fail to plan, you are planing to fail."

منصوبہ بندی کے حوالے سے چند اشارات یہ ہیں:

- اپنے کاموں کی مناسب منصوبہ بندی کیجیے۔
- یومیہ اور ہفتہ وار مقاصد (goals) متعین کیجیے اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔
- منصوبہ بندی پر توجہ اور یکسوئی کے ساتھ وقت لگانے سے عملاً کام کرنے کے لیے وقت نسبتاً کم دینا پڑتا ہے۔
- جتنی بھی مصروفیات ہوں، اپنے کرنے کے کاموں کی فہرست ضرور بنالیجیے۔
- روزانہ کے کاموں کا ایک شیڈول بنائیے اور اس میں ترجیحات متعین کیجیے۔
- ان ترجیحات کو کرنے کے لیے ایکشن لسٹ (Action List) بھی بنائیے۔
- جو کام آپ نہیں کر سکتے یا وہ افراد جو آپ کے مقاصد کے حصول میں حائل ہوتے ہیں یا وہ افراد جو کسی وجہ سے آپ کے کاموں کو متاثر کر رہے ہیں، ان کاموں اور افراد سے شائستگی کے ساتھ معذرت کرنے کی کوشش کیجیے۔

## واضح مقصد اور حصوں میں تقسیم

جو بھی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ واضح ہو کر اس کے مختلف چھوٹے چھوٹے حصے کر لیں۔ جیسے چھٹی کے دن کے لیے آپ نے طے کیا کہ میز اور الماریوں کی صفائی کرنی ہے۔ یہ کام دوپہر کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ختم ہونا ہے۔ تو پہلے آپ اندازہ کیجیے کہ کتنا کام ہے، میز اور الماریاں دونوں الگ الگ نوعیت کے کام ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کتنے گھنٹے درکار ہیں۔ پھر میز کے کاغذات کی کیسے تقسیم کرنی ہے۔ فرض کیجیے چار مختلف حصوں میں۔ اس کے بعد صفائی کرنی ہے، جراثیم کش دوا چھڑکنی ہے اور کاغذات کو متعلقہ فائلوں میں لگانا ہے۔ اسی انداز سے الماریوں کی صفائی کا کام ہے۔ پہلے تو اس کی ترتیب ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد کپڑوں کی نئی ترتیب اور فاضل اور پرانے کپڑوں کو نکالنے کے بارے سوچیے۔ پھر کام کی تقسیم۔ الماری سے سامان نکالنا، گرد صاف کرنا، دوائیں چھڑکنا، کپڑے الگ الگ کرنا اور ترتیب سے رکھنا۔ اس قسم کے کاموں میں گھر کے افراد اور بچوں سے بھرپور تعاون بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔

## توازن، توازن و تسلسل

جو کام بھی کریں، اس میں توازن، توازن اور تسلسل ضرور برقرار رکھیے۔ کسی چھوٹی سی کامیابی کے بعد خرگوش کی طرح مطمئن مت ہو جائیے ورنہ کچھو اپنے مسلسل عمل سے آگے نکل جائے گا۔ روز کا کام توازن اور اعتدال کے ساتھ کیجیے۔

### حقیقت پسندی

اپنے حالات میں حقیقت پسندی۔ کامیابی کا احساس ضرور رکھیے اور کامیابی کے تصور کو بھی واضح رکھیے۔ دنیا بہت ہی زیادہ جمع کرنے کی نہ تو فکر کیجیے اور نہ ہی کوشش۔ حسب ضرورت اگر مل جاتا ہے اور اس میں مستقبل کی کفالت کے لیے بچت ہو جاتی ہے تو بہتر ہے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر افراد کو دیکھیے۔ دین، علم اور فہم کے معاملے میں اپنے سے بہتر افراد کو دیکھیے۔ دنیا کے لالچ کو کم کیجیے۔ اپنے اوپر امانتوں اور ذمے داریوں کے بوجھ کو مت بڑھائیے۔

واقعات و معراج النبیؐ میں ہے کہ آپؐ نے ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا: یہ کون احق ہے؟“ کہا گیا: ”یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمے داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔“ مشہور ماہر انتظامیات، پیٹر ڈرکر کی تجویز ہے کہ اپنے کاموں اور معاملات کی فہرست کم کیجیے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ لوگ اپنی انا کی غیر ضروری تسکین کے لیے اپنی ہمت اور قوت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اپنے اوپر پہلی اُمتوں کی طرح بوجھ نہ ڈالنے کی دُعا کی گئی ہے۔

### اُدھورے کام اور ترجیحات


اپنے غیر مکمل کاموں اور ارادوں کی فہرست تیار کیجیے اور پھر ترجیحات متعین کیجیے، کرنے کے کام اور نہ کرنے کا کام۔ خود فیصلہ کیجیے کہ یہ اور یہ کام نہیں کرنے۔

## ڈیڈ لائن

ہر کام کے لیے مدت کی حدود معین کیجیے۔ وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے جس کے لیے آپ نے ٹارگٹ اور ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی۔ کام کی ضرورت کے لحاظ سے دیکھیے کہ کتنا وقت درکار ہے۔ آپ یقین کیجیے کہ جو کام اور تحریر ہم امتحان کے تین گھنٹے میں کر لیتے ہیں۔ عام دنوں میں تین دنوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امتحان میں ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ اور حدود متعین کی ہوئی ہوتی ہیں اور اس حد اور دباؤ کے باعث اتنا زیادہ کام ہو جاتا ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ کام سے پہلے مقصد اور منزل کا تعین کر لیں اور پھر اس کام کو کرنے کی حدود اور وقت بھی متعین کر لیں۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کام کی اپنی فطرت ہے اور وہ مہیا وقت میں کیا جاسکتا ہے۔ جتنا مہیا وقت آپ اسے فراہم کریں گے اتنا ہی وہ پھیلتا جائے گا۔ ذیل کے چارٹ سے آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے گا۔

### شکل نمبر 1



ایک ہی کام کرنے کے لیے آپ جتنی حدود متعین کریں گے اور دباؤ ڈالیں گے اس میں وہ ہو سکتا ہے۔ اپنی شخصیت، کام معمول بنائیے کہ روزانہ تین اہم کام کرنے ہیں، بلکہ روزانہ کی فہرست کے تحت تین اہم کاموں کو آپ ترجیحی نمبر دے دیں اور انہیں ہر صورت میں کرنے کی کوشش کریں۔ پھر روزانہ ایک نیکی اور بھلائی کرنے کی ضرورت کوشش کیجیے۔ کسی انسان کے کام آجائے، کسی کا دل خوش کر دیئے۔

## ترجیحات، امور کی تقسیم اور تفویض امور

ہم اپنے فریضے سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے دفتر کے ساتھیوں اور ماتحت افراد کو تیار نہ کر لیں۔ اپنی شخصیت میں جرأت پیدا کیجیے۔ دوسروں کو کام تفویض کیجیے اور انہیں سکھائیے مگر


کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ دفتر میں اور کاروبار میں جن جن لوگوں میں سستی و کاہلی ہو، اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے بہتر طریقے سے، حفظ مراتب اور عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اس معاملے میں گفتگو کیجیے۔ اپنی شخصیت میں افراد کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔

امور کی تقسیم اور تفویض کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے کاموں کی فہرست بنائیے۔ یہ عموماً بے ترتیب سی فہرست بنے گی۔ اگر اس کو کوئی شکل دینا چاہیں تو اس انداز کی بنے گی۔  
واضح رہے کہ آپ کی فہرست تو اوپر سے نیچے بنے گی، مگر شکل ایسی ہوگی۔

مثال

O	x	x	✓	✓	x	o	x	x	✓	✓	x	x	o	x	x	✓	
✓	o	x	o	o	✓	✓	x	x	o	x	x	✓	✓	x	x	o	x
o	x	x	✓	✓	x	o	o	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	x
o	x	o	✓	✓	x	x	o	x	x	✓	✓	x	o	x	x	✓	✓
✓	x	x	o	x	x	✓	o	o	x	x	✓	✓	x	x	o	x	x
o	o	x	✓	✓	x	x	o	x	x	✓	✓	x	x	✓	✓	x	x
o	x	x	✓	✓	x	x	o	x	x	✓	✓	x	o	x	x	✓	✓
✓	x	x	o	o	x	x	✓	✓	x	x	o	x	x	✓	✓	x	x

شکل نمبر 2 آپ کے لیے



دوسرے مرحلے میں آپ اس ترتیب کو بدل دیں۔

مثال

آپ کے فرائض	o o o o o o o o	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	o o o o o o o o	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	o o o o o o o o	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	o o o o o o o o	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	o o o o o o o o	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
آپ پر واجبات اور ادائیگیاں	o o o o o o o o	x x x x x x x x
	o o o o o o o o	x x x x x x x x
	o o o o o o o o	x x x x x x x x
	o o o o o o o o	x x x x x x x x
	o o o o o o o o	x x x x x x x x

آپ کے مستقبل سے متعلق		
وہ کام جو دوسروں کو دیے جاسکتے ہیں		

اب اسی چارٹ کو ایک اور شکل دے دیں اور اسے اہم اور ارجٹ کے چارٹ میں تبدیل کر دیں۔

#### شکل نمبر 4

	اہم (Importnat)	غیر اہم (Not Important)
فوری (Urgent)	A	B/C
غیر فوری (Not Urgent)	C/B	D

A۔ جو امور اہم بھی ہیں اور فوری طور پر کرنے ہیں وہ آپ کی اوّلین ترجیح ہوں گے۔  
B/C۔ یہ وہ امور ہیں جو نسبتاً کم اہم ہیں مگر آپ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے B ہو جاتے ہیں۔ ان امور کو نمٹانے کے لیے آپ ان صلاحیتوں کو بڑھائیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں۔

C/B۔ جو امور اہم ہیں مگر آپ کے سر پر سوار نہیں ہیں وہ آپ کی دوسری ترجیح ہوتے ہیں۔ مگر ترتیب کے لحاظ سے C میں آ جاتے ہیں۔ ان امور میں آپ کی ذات کی ترقی اور کامیابی، خاندانی تعلقات اور فلاح و بہبود شامل ہیں۔

D۔ یہ وہ امور ہیں جو نہ تو اہم ہیں اور نہ ہی فوری۔ اسے آپ نہ کریں بلکہ آپ تفویض کر دیں۔  
واضح رہے کہ عمومی کاموں میں اپنے آپ کو مت تھکائیں۔ قوتیں اور صلاحیتیں زیادہ اہم کاموں میں استعمال ہونی چاہئیں۔ اب اسی کام کو اگلے صفحے پر دیئے گئے فارم کو پُر کر کے کرنے کی کوشش کریں۔

### SWOT AND PRIORITY BASED PLANNER

**S** Strength      **O** Opportunity      **Ranking (High-Low)**      Date : \_\_\_\_\_  
**W** Weaknesses      **T** Threats      **Importance 5, 4, 3, 2, 1**      **Urgency 5, 4, 3, 2, 1**      **Priority a, b, c, d, e**

S.No.	To Do-Description of Work	S	W	O	T	Importance	Urgency	Priority	Action Plan	
									By	When

Make photocopies of this chart. Fill this form every week. Just note down what you want to do and then fill the remaining columns. Review your progress



## الف: رویہ تبدیل کیجیے

ایک فرد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کام کو ٹالتا رہتا ہے اور ذمے داریوں سے فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی فرد اگر اپنے رویے کو تبدیل کر لے اور اپنی سوچ کو مثبت بنالے تو وہ بہترین انداز سے کام کر سکتا ہے۔

## چارٹ-8

### الف۔ سوچ کی تبدیلی

مثبت سوچ اور الفاظ (مثبت نتائج اور علامات)	منفی سوچ اور الفاظ (کامیابی کی علامات)
1- یہ تو میرے کام کا حصہ ہے۔ بس اسے اس انداز سے اور اس وقت کر لیں گے۔	1- اوہ۔ مجھے تو یہ کام کرنا ہے، کرنا پڑے گا (شاید میری خواہش نہیں مگر میری مجبوری ہے)
2- مجھے اس کام کو جلدی شروع کر دینا چاہیے تاکہ آخر میں آرام مل جائے۔ کیوں نہ اسے آج سے شروع کر دیا جائے۔	2- اوہ! مجھے تو یہ کام ختم کرنا ہے۔ (کام کو یا پڑھائی کو مصیبت سمجھنا)
3- سو درخت لگانے ہیں۔ آج ایک لگالیں۔ پھر تو تین (100) کی جگہ دو (99) اعداد رہ جائیں گے۔ اسی انداز سے پہلا قدم اٹھائیں اور آگے بڑھتے رہیں گے۔	3- یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ کام ہے۔ نہ معلوم کب ختم ہوگا۔ کر سکتے ہیں یا نہیں؟
4- جتنے اچھے اور احسن طریقہ سے کام ممکن ہے وہ کروں گا۔ کوشش میری طرف سے، اتمام اللہ کی طرف سے۔ وہ برکت دینے والا ہے۔	4- میرا کام اعلیٰ اور مکمل (Perfect) ہونا چاہیے اور اس میں کوئی غلطی اور نقص نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس جیسا کام کوئی اور کر سکے
5- زندگی میں آرام و راحت اور کھیل کود اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وقت تو نکالنا ہی ہوگا۔ زندگی، حقوق العباد کا حساب تو دینا ہے۔	5- میرے پاس آرام، تفریح اور کھیل کود اور حقوق کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں ہے۔

## ب: دیگر تجاویز

- بظاہر دنیا بہت مشکل ہے، آپ کو تھکا دینے والی اور آپ میں احساس کمتری پیدا کرنے والی ہے۔ مگر آپ اپنے نیک مقاصد کے حصول کے لیے اپنی منفی سوچ کو ترک کر دیجیے۔ کوئی کام کرنا ہے تو اس کے بارے میں مکمل تیاری کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ پانی اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں نسبتاً زیادہ پانی ہے۔ موقع پائیے اور راستہ تلاش کیے۔
- جو کام کرنے میں ان کے چھوٹے چھوٹے اجزاء پر بھی توجہ دیجیے، سب ایک ساتھ کرنے کی خواہش مت رکھیے۔
- اپنے آپ کو ہمیشہ یاد دلاتے رہیے کہ سستی اور کاہلی، تباہی اور ناکامی کی طرف لے جاتی ہے اور باوجود یہ کہ یہ ہماری شخصیت کا حصہ بن گئی ہے، ہمیں اس بیماری یا عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔
- عموماً کوشش کیجیے کہ اپنے آپ کو صبح کے وقت اس انداز سے تیار کریں کہ آپ ایک مؤثر، مستعد، منظم اور مفید فرد ہیں اور آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے والے فرد ہیں۔
- جن چیزوں اور عادات کا سہارا لے کر آپ سستی کرتے ہیں ان سے آپ اپنی ذات کو مشورے دے کر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔
- اپنے پاس نوٹ بک، ڈائری یا 3x5 انچ کے سائز کے کارڈز رکھیں اور کرنے کے کاموں میں ذہن کی بجائے قلم اور کاغذ کے حوالے کر دیں اور پھر انہیں کرنے کی کوشش کریں۔
- اپنے قابل اعتماد اور دکھ سکھ کے شریک دوستوں کا گروپ بنائیے اور مل کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بطور طالب علم اگر آپ انفرادی مطالعہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک یا چند دوستوں کے ساتھ مل کر گروپ اسٹڈی کا پروگرام بنائیں۔ اس کے ذریعے آپ مجبوراً مطالعہ کر لیں گے اور اس انداز سے دوسرے کام بھی ہوتے جائیں گے۔
- جو کام آپ عادتاً کر لیتے ہیں اور آپ کے معمول میں شامل ہیں، ان کاموں کے ساتھ اس کام کو نتھی کر دیں یا شرطیہ بنادیں جس میں آپ تساہل کرتے ہیں۔ جیسے شام کی واک سے پہلے دس منٹ کے لیے یہ کام کر لوں گا۔

- اپنے کرنے کے کاموں کی فہرست اپنے سامنے رکھیے۔ یاد دہانی کا طریقہ وضع کیجیے۔ آپ کے پاس اگر کمپیوٹر ہے تو اس قسم کے اسکرین سیور (screen saver) استعمال کیجیے جو آپ کو کام کرنے پر ابھاریں اور سستی اور کاہلی سے دور کر رہیں۔
- جن کاموں کے بارے میں آپ سستی کرتے ہیں انہیں کرنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ کوشش کر کے کام کیجیے۔
- مشکل کاموں کو کریں تاکہ تصوراتی اور عملی طور پر آپ کی آئندہ زندگی آسان اور خوشگوار ہو۔
- اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقت بھی دیجیے۔ جو عادتیں تبدیل ہو رہی ہیں ان پر اپنی ذات میں خوشی بھی محسوس کیجیے۔

## ماحول کو سازگار بنائیے

- اپنے ارد گرد کے ماحول کو اس انداز کا بنائیے کہ آپ کا کام کرنے کو دل چاہے۔
- اگر آپ کو دفتر کا کام کرنا ہے تو دفتری ماحول، میز کی ترتیب اور ضروری فائلوں کی موجودگی ضروری ہے اور اگر آپ کھانا پکانے کے کام میں مصروف ہیں تو پھر ضروری ہے جو ڈش پکائی جا رہی ہے اس کے متعلق تمام ضروری چیزیں اور برتن بھی موجود ہوں۔ کسی بھی چیز کی غیر موجودگی افراتفری پیدا کرے گی۔

اس حوالے سے چند اشارے پیش نظر رہنے چاہئیں:

- کام کرنے کی جگہ ترتیب کے ساتھ ہے اور مناسب ہے۔
- ضروری سامان، اوزار اور آلات موجود ہیں۔
- متذکرہ بالا چیزیں اور دیگر اسباب اس ترتیب سے رہیں کہ بوقت ضرورت مل سکیں۔
- کام کرنے کے لیے مناسب اور ضروری جگہ موجود ہے۔
- مناسب روشنی اور ہوا کا اہتمام ہے۔ درجہ حرارت حسب ضرورت ہونا چاہیے۔
- شور و غل اور گرد و غبار تو پریشان نہیں کرے گا۔
- کاغذی کارروائی کرنے کے لیے مجھ میں مطلوبہ صلاحیت موجود ہے یا سیکھنی ہوگی؟
- یکسوئی کے لیے ماحول مناسب ہے یا نہیں؟

## وقفے اور انتظار کے لمحات

چھوٹے چھوٹے اوقات کو استعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ایک دوست کھانے کی تیاری کے انتظار کے وقت میں اخبارات کے لیے مضامین تحریر کر لیتے ہیں۔ ایک اور دوست عموماً مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید کے بڑے بڑے شہروں کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں۔ اپنے دوستوں سے رابطہ، لاؤنج کے انتظار کے وقت میں کر لیتے ہیں اور خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو دوران پرواز ہی اپنی سرکاری میٹنگوں کی روداد ڈکٹافون میں ریکارڈ کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کی سیکریٹری تحریر کر لیتی ہیں۔ ایک اور دوست ہیں جو دفتر اور گھر کے آمد و رفت کے اوقات میں دفتر کے کام، اہم ریویو وغیرہ کر لیتے ہیں۔ ایک اور دوست نے ایک اہم امتحان اپنے گھر اور دفتر کے درمیان روزانہ کے معمول کے سفر کے وقت میں تیاری کر کے پاس کیا۔ دور حاضر میں پام ٹاپ اور لیپ ٹاپ نے بھرپور سہولتیں مہیا کی ہیں۔ ان پر سرمایہ کاری کیجیے اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جن کے لیے یہ سرمایہ کاری ممکن نہیں ہے وہ 3x5 انچ کے کارڈز سے ابتدا کر سکتے ہیں۔

## بہترین اوقات اور یکسوئی

اپنے بہترین اوقات کا جائزہ لیجیے۔ جن اوقات میں آپ بہت مستعدی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں بس ان اوقات میں انتہائی اہم کام کیجیے۔ یہ اوقات بعض حضرات کے لیے صبح کے ابتدائی چار گھنٹے ہوتے ہیں اور بعض کے دیگر۔ اس کے علاوہ اپنے کاموں کی فہرست میں ترتیب کو بدل بدل کر کرنے کی کوشش کیجیے اور جس ترتیب میں آپ زیادہ مستعدی کے ساتھ ساتھ کام کر سکیں، اس پر کار بند رہیں۔ ”یکسوئی“ کے تصور کو سمجھیے اور حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ مدخلتوں اور کام کے دوران آنے والی الجھنوں سے اپنے آپ کو پریشان مت کیجیے۔ ٹیلی فون کو اپنے سے دور رکھیے۔ موبائل فون کو خاموش (silent) کر دیں۔ کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ صبح کے اوقات کو مت ضائع کیجیے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھیے اور اس کے بعد وقت کو بہتر طور پر استعمال کیجیے۔ فجر کے بعد سو کر اس سنہری وقت کو ضائع نہ کریں، صبح کا سونا تنگ دستی لاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سوتے کو جگانا آسان ہے

جاگتے کو جگانا مشکل ہے۔ ہم جاگتے ہوئے بھی سوئے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بستر کی لذت سے باہر نکالیے۔ اپنے آپ کو حاجات سے فارغ کیجیے۔ اپنی شخصیت اور لباس کا خیال رکھیے اور مطالعے اور کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیجیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے اللہ۔ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما“۔  
(ترمذی)

## فرصت تو مرنے کے بعد ہی مل سکتی ہے

کبھی بھی اچھے حالات کی توقع میں کام کو ملتوی مت کیجیے۔ اپنے فرائض کو کبھی بھی ملتوی مت کیجیے۔ اپنے عزائم بلند رکھیے۔ ناکامی اور اندھیرے سے مت گھبرائیں۔ ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں۔ بقول فرانس بیکن: ”میں نے دُنیا کے عظیم انسانوں کو جھوٹوں سے نکلنے ہوئے دیکھا ہے۔“ ناکامی سے مایوس مت ہوں۔ تیمور لنگ چیوٹی کی بار بار ناکامی ہی سے کامیابی کے راز سے آشنا ہوا تھا۔

اپنے آپ سے کہیں کہ آپ اس پروجیکٹ پر صرف دس منٹ کام کریں گے اور جب کام شروع کر دیں اور کام پر لگ جائیں تو پھر آگے بڑھیں اور پھر بھی اٹھنا پڑے تب بھی آپ نے دس منٹ تو کام کر ہی لیا۔ انگریزی میں اسے سیلف پرسوایشن (Self Persuasion) یا خود ترغیبی کہتے ہیں۔

اپنے مزاج کی اس انداز سے تربیت کیجیے کہ آپ کام وقت پر ختم کریں اور یہ آپ کے لیے کھیل بن جائے۔

جن چیزوں اور وسائل کے باعث آپ اپنے اصل کام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کا سہارا لیتے ہیں ان کو ترک کر دیں۔

- ذہن کو پرگندہ کرنے والی چیزیں ہٹادیں،
- میگزین اور رسالوں کو چھپادیں،

- ٹی وی بند کر دیں،
- چیٹنگ (chatting) اور براؤزنگ (browsing) کو فی الوقت چھوڑ دیں،
- کمرے کی کھڑکیوں پر پردہ لگا دیں تاکہ باہر کی چیزیں آپ کو متاثر نہ کریں،
- لوگوں سے انتقام نہ لیں اور معاف کر دیں ورنہ یہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے،
- حسد، کینہ، غصہ، جغلی اور غیبت سے نجات حاصل کرنے یا کم کرنے کی کوشش کیجیے،
- جس نوعیت کے کام کرنے ہیں اس علاقے میں رہیں۔ فون کرنا ہے تو ٹیلی فون کے پاس رہ کر فون کر دیں۔ موبائل ہے تو نمبر ساتھ رکھیں موبائل کی یادداشت میں محفوظ یا save کر لیں۔
- کام کو ختم کرنے کی عادت کریں۔

### حکیم لقمان کی ایک حکایت

حکیم لقمان کی حکایات میں ہے کہ ایک سور کسی درخت سے اپنی ڈاٹھ تیز کر رہا تھا۔ ایک لومڑی وہاں آنکلی اور اس سے کہنے لگی۔ اے دوست کوئی دشمن تو نہیں ہے۔ تم کس کے ساتھ لڑائی کی تیاری کر رہے ہو۔ سور نے کہا۔ اے لومڑی! تیری بات سچ ہے لیکن فرصت کے وقت اپنے ہتھیار صاف اور تیز کر کے رکھنے چاہیں۔ اس لیے کہ لڑائی کے وقت فرصت ملے یا نہ ملے۔ لڑائی کا کیا بھروسا۔

The more you sweat in peace the less you bleed in war.

جو وقت ملا ہے اس سے بھر پور فائدہ اٹھائیے اور اسے ابھی کرنے کی کوشش کیجیے اور اگر یہ وقت ضائع کیا تو پھر کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکے گا۔

### ہاں میں کوشش کروں گا

مشکل کاموں سے جی مت چرائیے اور انہیں ایک طرف مت رکھیے۔ چیلنج کا مقابلہ کرنا سیکھیے۔ ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا مقولہ ہے: ”ڈوبتے ہوئے سورج نے پوچھا: ہے کوئی جو میری جگہ لے۔ ٹٹماتے ہوئے دیے نے کہا: ہاں میں کوشش کروں گا۔“ کوشش ہماری متاع ہے۔ انسان پر حسن نیت کے ساتھ کوشش ہی فرض ہے۔ کسان بیج ڈال کر

زمین کی دیکھ بھال کی کوشش ہی کرتا ہے۔ بارش اور تپش کا انتظام تو انسانی وسائل سے ماورا ہے۔ ایک بس کے پیچھے تحریر تھا: ”محنت تیری جاگیر ہے۔“ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جن کے پاس زمین اور جائیدادیں نہ ہوں ان کی جاگیر تو محنت ہی ہے۔ لیکن محنت کے لیے بھی سمجھداری کی ضرورت ہے۔

## موقع کا انتخاب

اپنی زندگی میں ایسے اوقات تلاش کیجیے جن میں آسانی ہو، راستے میں بھیڑ کم ہو، سنگل سُرُخ نہ ہوں، ٹریفک میں اور ٹیکنگ کم ہو اور منزل آسانی سے حاصل ہو جائے۔ کوشش کیجیے اور اللہ سے دُعا بھی کیجیے کہ آئندہ آنے والے معاملات اور مراحل خوشگوار ہوں اور خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں۔ گھر اور دفتر کے لوگ، راستے اور سڑکیں سب آپ کے لیے معاون ہوں۔ گھر اور دفتر کے درو دیوار ہمارے لیے باعث سکون ہوں۔ ہمارے گھر کی تازہ روٹی غریبوں کو جائے اور سوکھی روٹی بھیڑ بکریوں اور دریا و سمندر کی مچھلیوں کو، تاکہ یہ سب ہمارے لیے دُعا کریں۔

## صحت کا جائزہ

اپنے جسمانی اور طبعی معاملات کا جائزہ لیجیے۔ اگر کس بیماری میں مبتلا ہیں تو اس کا علاج کیجیے۔ اگر بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے تب بھی حکیم، ڈاکٹر اور اہل فرد سے گفتگو کیجیے۔ تھکن، غصہ، نظر بد اور سفلی اعمال کا جائزہ لیجیے اور ان کا علاج کروائیے۔ اس کے علاوہ اپنی خوراک کا جائزہ لیجیے۔ اس میں کسی قسم کی کمی ہے تو ڈاکٹر یا حکیم سے مشورے سے اس کا علاج کیجیے۔

## دورِ حاضر کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیے

کاموں کو اپنے اوپر سوار مت کیجیے بلکہ خود اتنی صلاحیت پیدا کیجیے کہ آپ کاموں پر سوار ہو جائیں۔ اپنی درج ذیل صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کیجیے۔

• گفتگو (انگریزی اور اردو یا سرکاری زبان)

• سوچ اور غور و فکر

• تحریر (report writing)

• لوگوں سے ملنے کی صلاحیت

- لوگوں کے سامنے بات کرنے کی صلاحیت
- ٹیم ورک
- تفویض امور
- کمپیوٹر/ انٹرنیٹ
- احتساب

## کرنے کے دو کام

جب آپ کے سامنے کام آئے یا کسی پروجیکٹ کی ذمہ داری ڈالی جائے تو آپ کو دو اہم کام کرنے چاہئیں۔

الف: الٹا کلینڈر (Reverse Calender)۔ جس تاریخ کو کام کی تکمیل (ڈیوری) متعین کی گئی ہے اس سے آپ الٹا چلیں اور کام کے مختلف مراحل نوٹ کر کے اس کے لیے ٹارگٹ مقرر کریں۔  
ب: کام کے منطقی ٹکڑے کر لیں۔ جیسے آپ ڈبل روٹی کو اٹھا کر منہ میں نہیں ڈال لیتے بلکہ پہلے اس کے سلاخس کرتے ہیں اور پھر لقمے کر کے کھاتے ہیں۔ اس انداز سے کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔

## اپنے آپ کو ان 'غ' سے بچائیے

اپنے آپ کو مندرجہ ذیل 'غ' سے بچائے۔

الف۔ غصہ: حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے اور یہ دوسروں کی غلطیوں کی اپنے آپ کو سزا دینا ہے۔

ب۔ غفلت: اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہی اختیار مت کیجیے اور حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔

ج۔ غیبت: اپنے بھائی یا دوست یا ساتھی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی سے بچئے۔ یہ عادت طبیعت کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے اور زندگی غیر مطمئن رہتی ہے۔

د۔ غبن: کاموں کی یعنی دفتری اوقات کی چوری مت کیجیے۔ دفتر کی چیزوں کو ذاتی مفاد میں استعمال مت کیجیے۔ خیانت اور کرپشن سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ایمانداری اور سچائی کے منافی عادات



ہیں۔ یہ طبیعت میں بے چینی پیدا کرتی ہیں۔

## بیلنس شیٹ

جب کسی کام میں تساہل پیدا ہو رہا ہو تو آپ ایک بیلنس شیٹ بنائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کاغذ کے درمیان ایک لکیر لگائیں اور اس کے بائیں اور دائیں جانب یہ تحریر کریں۔

<p><b>ب</b>۔ دائیں جانب: اس کام کو کرنے سے آپ کو کیا فوائد ہوں گے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• آپ کی کن کن صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔</li> <li>• آپ کی ترقی پر کیا اثرات ہوں گے۔</li> <li>• آپ کے تعلقات پر کیا اثرات ہوں گے۔</li> <li>• کامیابی کی صورت میں کیا ہوگا۔</li> </ul>	<p><b>الف</b>۔ بائیں جانب: اس کام کو کرنے کے لیے آپ کیوں تساہل کر رہے ہیں۔ ممکن ہے اس کی دو تین وجوہات سامنے آئیں۔ جیسے کیا ضروری ہے، خواہ مخواہ کا بوجھ ہے۔</p>
--	--

ان سوالات کے جوابات آپ میں حرکت اور قوت عمل پیدا کریں گے۔

## وصیت

وصیت کے بارے میں علم حاصل کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان پر دو راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہئیں کہ اس کے پاس وصیت کے قابل اشیا اور امور کے بارے میں لکھی ہوئی وصیت موجود نہ ہو۔ (مشکوٰۃ)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص وصیت کر کے دنیا سے گیا وہ سیدھے راستے پر اور سنت والے راستہ پر دنیا سے گیا اور تقویٰ اور شہادت پر مرام اور مغفرت کی حالت میں دنیا سے گیا۔ (مشکوٰۃ)

وصیت لکھ کر آپ کا کافی بوجھ کم ہو جائے گا اور آپ کو سکون بھی ملے گا۔ کاغذ اور قلم اٹھا کر لکھنے کی کوشش کریں۔

## مالیاتی امور

مالیاتی امور خاص کر قرض کے لین دین، سرمایہ کاری و نفع و نقصان میں شرکت کے معاملات،

ہے، حقوق اور فرائض و ذمہ داریوں کی تقسیم اور اختیارات کی تفویض کے معاملات فوری طور پر ضبط تحریر میں لے آئیں، ان دستاویزات پر متعلقہ افراد سے دستخط کروائیں اور گواہ بھی بنالیں۔ انسان عموماً ان چیزوں میں تاخیر کرتا ہے۔

## زکوٰۃ وراثت

زکوٰۃ اور وراثت کی تقسیم میں دیر مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور وراثت کے ذریعے دولت کی تقسیم کا نظام بنایا ہے۔ زکوٰۃ کے سالانہ حساب میں اندازے کی بجائے حقیقت پسندانہ طریقہ سے حساب کیجیے اور اس کی فوری تقسیم کا اہتمام کیجیے۔ اس انداز سے وراثت کی تقسیم، مرحومین کے انتقال کے فوراً بعد کر لیجیے۔ کم از کم وراثت کی کل رقم اور اس کی قدر و صحت (Value) تقسیم اور حصص کا تعین تو فوراً کر لیں۔ ادائیگی معاہدے کے مطابق کر لیں۔ اس معاملے میں دیر نہ کیجیے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض یعنی تقسیم وراثت کے طریقے خود سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ اس لیے کہ یہ نصف علم ہے اور وہ بھلا دیا جائے گا اور پہلی چیز جو میری امت سے اٹھائی جائے گی وہ یہی ہے۔ (ابن ماجہ)

نوٹ: (جو لوگ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے کے بعد کچھ اضافی رقم نکال کر بنوہاشم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے غریبوں میں تقسیم کا اہتمام کریں کیوں کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔)

## اپنی آخرت کی فکر

دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت مت تباہ کیجیے۔ دوسروں کے معاملات میں اتنا آگے بھی مت جائیے کہ اپنے آپ کو فراموش کر دیں۔

## تکمیل پر خوشی کا اظہار

جب آپ کوئی اہم کام کر لیں تو خوشی منائیے۔ دفتر میں ایسے مواقع پر تقریبات کا اہتمام کیجیے۔ ایسے مواقع پر مٹھائی بھی تقسیم کریں۔ جب گھر کی صفائی یا کوئی اہم کام کر لیں تو اہل خانہ کو بھی اپنی خوشی میں شرکت کیجیے۔

## استغفار

اپنے اب تک کے معاملات میں استغفار کرنا چاہیے۔ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ معاملے اور حالات کی سازگاری کی دُعا کرنی چاہیے۔ ہمارے دین میں نمازوں کے اوقات، ترتیب، ذمے داریوں کا احساس اور نماز تہجد وغیرہ ایسے امور ہیں جن کے باعث تساہل کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ خوفِ خدا، تقویٰ، احتساب، انسان کو تساہل سے بچاتے ہیں اور انسان کی حفاظت ہوتی رہتی ہے اور مدد جاری رہتی ہے۔

## جنازے میں شرکت

جنازوں میں شرکت کیجیے اور احساس رکھیے کہ کل آپ بھی اسی طرح لوگوں کے کندھوں پر ہوں گے۔ زیارتِ قبور کا اہتمام کیجیے اور مٹی کے پتلے کے مٹی بننے کے بارے میں سوچیے۔ یہ دونوں چیزیں آپ میں ترجیحات کا احساس پیدا کریں گی۔ جب آپ آج کے دن کو زندگی کا آخری دن محسوس کرنے لگیں گے تو آپ کی قوت عمل تیز ہو جائے گی اور آپ زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی ذمے داریوں سے عہدہ برآمد ہو سکیں گے۔ لیکن اس معاملے میں اپنی صحت اور توانائی کا خیال رکھیے اور اس بات کا خیال کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی اور قبر میں بلب نہیں ہوگا۔

## حقوقِ نفس

اپنی تفریح کے اوقات کو پہچانیے اور ان اوقات میں تفریح ضرور کیجیے، ملتوی نہ کرتے رہیے۔ اپنے آپ کو تازہ دم ضرور کیجیے۔ کولہو کے نیل مت پیئے۔ شخصیت میں ہمہ جہتی توازن پیدا کرنے جو چیزیں ضروری ہیں ان پر عمل کیجیے۔

## چند سوالات

ان تجاویز اور مشوروں کے مطالعے کے بعد یہ اُمید کی جاسکتی ہے کہ آئندہ آپ درج ذیل سوالات کے جوابات مثبت انداز میں دے سکتے ہیں:

1- کیا میری زندگی کا نصب العین واضح ہے۔ (تحریری طور پر)؟

جواب:

2- کیا میں نے اپنی منازل اور مقاصد متعین کی ہوئی ہیں۔ (تحریری طور پر)؟

جواب:

3- کیا ان کے لیے میں نے کوئی وقت معین کریں ہے۔ (تحریری طور پر)؟

جواب:

4- کیا میں نے اپنے کاموں کی کوئی فہرست تیار کر لی ہے۔ کیا اس فہرست کو میں باقاعدگی سے دیکھ سکتا ہوں تاکہ اس وجہ سے میری قوت عمل پر دباؤ آئے اور میں مستعد ہو کر کام کر سکوں؟

جواب:

5- کیا میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ اہم اور اقدار والے کام پہلے کروں اور ہنگامی نوعیت کے کاموں سے نمٹنے کے لیے صلاحیت اور افراد تیار کر لوں؟

جواب:

6- کیا ہنگامی صورت میں، عقل اور فراست اور مطمئن فرد کی صورت میں کام کرتا ہوں؟

جواب:.....

7- کیا میں سوچ سمجھ کر اور تجربہ کر کے فیصلہ کرتا ہوں اور پھر یکسوئی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتا ہوں؟

جواب:.....

8- کیا میں ایک وقت میں ایک کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دیگر امور کو مناسب وقت کے لیے متعین کرتا ہوں؟

جواب:.....

9- جب میں ایک کام شروع کرتا ہوں تو پھر اس کام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟

جواب:.....

10- کیا مجھ معذرت کرنے، یعنی ”نہ“ کہنے کا فن آتا ہے اور اسے میں سلیقے سے ادا کر سکتا ہوں، تاکہ دوسروں کے کام بلا وجہ اپنے ذمے نہ لوں؟

جواب:.....

11- کیا میں حال میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں۔ میں ماضی پر افسوس نہیں کرتا اور خام خیالی میں نہیں رہتا؟

جواب:.....

.....

.....

12- کیا میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کام کو احسن طریقہ سے کروں اور کام نتیجہ خیز ہو؟

جواب:.....

.....

.....

13- اگر مندرجہ بالا میں سے کسی کا جواب بھی نفی میں ہے تو میں مندرجہ ذیل اقدامات کروں گا۔

1-.....

2-.....

3-.....

4-.....

5-.....

6-.....

8-.....

9-.....

10-.....

11-.....

12-.....

13-.....

14-.....

15-.....

## ہشیار بنیے، دور اندیش بنیے

ایک صحابی نے عرض کیا:

”اے پیغمبرؐ بتلائیے کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہشیار اور دور اندیش ہے۔“

نبی اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: ”وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے، جو لوگ ایسے ہیں وہی دانش مند اور ہشیار ہیں۔ انہوں نے دُنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی۔“ (معجم الصغیر، طبرانی)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے، وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا سودا سستا نہیں، بہت مہنگا اور قیمتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وہ سودا جنت ہے۔“ (ترمذی)

## دُعائیں

- اپنے لیے صبح و شام میں چند لمحے، دُعاؤں کے لیے مخصوص کر لیں۔ چند منسون دُعاؤں یاد کر لیں اور ان کا اہتمام کریں:
- اے اللہ، میں غم و فکر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بے چارگی اور کاہلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بخل اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے غلبے اور لوگوں کے تسلط سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔
  - اے اللہ! میرے رزق میں برکت دے۔
  - اے میرے پروردگار! میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر اور مجھے فتح عنایت فرما اور مجھ پر کسی کو فتح نہ دے۔ میرے لیے تدبیر فرما، اور میرے خلاف کسی کی تدبیر نہ کر اور مجھے ہدایت فرما اور میرے لیے راہ راست پر چلنا آسان کر دے اور مجھ پر زیادتی کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما۔ یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بنا، اپنا ذکر کرنیوالا بنا، اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنا فرمانبردار بنا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا، زاری کرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا۔ اے میرے پروردگار، میری توبہ قبول کر لے، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دُعا قبول فرما، میری دلیل اور حجت کو

ثبات بخش، میری زبان کو سچا بنا اور میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینے کی سیاہی نکال دے۔ (الحزب الاعظم)

- اے اللہ، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں آج کے دن کی خیر (وخوبی)، اور جو آج کے دن میں (پیش آنے والا) ہے اس کی خیر (وخوبی)، اور جو آج کے بعد (پیش آنے والا) ہے اس کی خیر (وخوبی) اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں آج کے دن کے شر سے اور جو آج کے دن میں (پیش آنے والا) ہے، اس کے شر سے اور جو آج کے بعد (پیش آنے والا) ہے اس کے شر سے۔
- اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ مجھ سے سرزد ہونے والی میری تمام حرکات و سکنات (چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا) آج کے دن میں میرے حق میں بہتر ہیں تو، تو ان کو میرے لیے مقدر کر دے اور ان کو میرے لیے آسان کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ وہ میرے حق میں شر اور ضرر رساں ہیں تو ان کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے ان سے دور رکھ۔
- اے اللہ آپ ہمارے آج کے دن کے پہلے حصے کو ہمارے کاموں کی درستی، درمیانی حصے کو بہبودی اور آخری حصے کو کامرانی بنا دیں۔ آمین۔

## آخری سوال

کیا میرا آج گزشتہ کل سے بہتر ہے؟  
کیا میں نے اتنی تیاری کر لی ہے کہ میرا آنے والا کل آج سے بہتر ہو؟  
اگر مجھے آج ہی آخری سفر پر روانہ ہونا پڑے تو کیا تیاری ہے؟



جب کوئی کام آپ کے سپرد کیا جائے تو اس چارٹ سے مدد لیں

آپ کی ذمہ داری				کام یا پروجیکٹ کا نام
				تفویض کنندہ کا نام
				تاریخ تفویض
				کب تک مکمل کرنا ہے
آپ کے اختیارات				
انسانی وسائل				
				کام کی نوعیت تفصیل اور خصوصیات
مادی مالیاتی وسائل				
کام کے مراحل				
ہدف	افراد	مرحلہ	ترتیب	اس کام کے ثمرات
				ادارے کے لیے
				آپ کی ذات کے لیے

بعض اوقات اداروں میں ہدایات کے بغیر کام دے دیا جاتا ہے۔ آپ اس فارم کی روشنی میں دیے گئے کام کی منصوبہ

بندی کریں اور اپنے افسر سے بات کریں کہ آپ کے ذہن میں اس کام پر عمل درآ مد کا یہ ایکشن پلان ہے۔

# Office Routine Chart

چارٹ-10

Self Designed Job Description  
Based on Experience in the Organization

S.No.	Nature of Work	Reporting			Routine					
					Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat

## Individual Delegation

Name of Delegatee: \_\_\_\_\_

Date of Delegation	Nature of Work/Communication	Deadline	Done	Remarks

## Delegation planning

## Routine Work

Title of Task	Priority	Delegate to	Name of Week Days/Months					

Symbols to be used in six columns

d: When delegated

c: Expected date of completion

## Project Delegation Chart

When More Than Two Persons Are Involved

Name of Persons (Delegatee) with targets date						Nature of Work (Steps)	Logical Sequence

فرض کریں آپ کوئی تقریب کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں امور کی منطقی انداز میں ترتیب لکھ لیں، اضافی کالم میں آپ لوکیشن (Location) تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے آپ ان لوگوں کے نام لکھ لیں جن سے آپ کو کام لینا ہے۔ اب ہر کام کے آگے فرد کے کالم میں نشان لگادیں اور تاریخ کا ہدف لکھ لیں۔ جب کام مکمل ہو جائے تو کسی دوسرے رنگ کی پنسل/قلم سے نشان دیں۔

کیا آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیابی چاہتے ہیں؟  
اگر ہاں!

تو پھر اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے ناگزیر ہے

## شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر

وقت کے بارے میں اہم کتاب، جو ہر اس شخص کے لیے کامیابی کی کلید ہے جو ایک نئی شخصیت کی تعمیر کر کے اپنے گھر، دفتر، کاروبار، دوست احباب اور معاشرے میں ممتاز ہونا چاہتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ایک نئی، تازہ، پرمسرت اور صحت مند زندگی کے دروازے پر آپ کی وہ دستک ہے جس کے بعد ترقی اور کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک نئی، ہمہ وقت، مستعد اور متوازن زندگی، کامیابیوں کو اس قدر آسان بنا دیتی ہے کہ دولت، شہرت، عہدے اور خوشیاں سب آپ کی دسترس میں ہوتی ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد شخصیت اور فکر کی حیران کن تبدیلی نہ صرف آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی متحیر کر دے گی۔

صفحات 360 قیمت 150 روپے

قریبی بک اسٹال سے طلب کیجیے یا اس پتے پر آرڈر بک کرائیے

فضلی بک سپر مارکیٹ

اردو بازار، کراچی، پاکستان

فون: 021-2212991 فیکس: 021-2633887

پاکستان میں ڈاک سے منگوانے کے لیے رابطہ کیجیے

کامیابی ڈائجسٹ پبلی کیشنز

ای میل: kamyabi22@yahoo.com

افتح بک سینٹر

پوسٹ باکس 8545، کراچی 75530

www.timemanagementclub.com

دین اور دنیا میں سرفرازی، کامرانی اور خوش حالی کے سفر کا آغاز کیجیے  
سفر کی ابتدا آپ کی اپنی ذات سے ہوتی ہے، اپنی شخصیت کو مؤثر اور کامیاب بنائیے

شاہراہ زندگی -- پہلا قدم

## مؤثر اور کامیاب شخصیت

محمد بشیر جمعہ

یہ کتاب بتاتی ہے کہ شخصیت کو مؤثر اور کامیاب کیسے بنایا جائے  
شخصیت کی تعمیر کے کلیدی عناصر اور انہیں اپنانے کے طریقے  
سات معروف عادتیں جو آپ اپنائیں تو کامیابی آپ کی رفیق بن جاتی ہے  
کامیابی کا عہد نامہ جو ہر تفتے، ہر مہینے اور ہر سال آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کامیابی کا سفر کتنا اور کس طرح طے کیا ہے

زندگی کی جدوجہد میں ہر ایک کو کامیاب  
اور عام لوگوں کو خاص بنانے والی کتاب  
جس کا مطالعہ شاہراہ زندگی پر آپ کا پہلا قدم ثابت ہوگا  
رنگین سرورق، آفسٹ طباعت  
صفحات 90، قیمت 50 روپے  
اپنی کاپی آج ہی حاصل کیجیے۔

معیاری کتب فروشوں کے علاوہ ان پتوں سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے:

فضلی بک سپر مارکیٹ

اردو بازار، کراچی، پاکستان

فون: 021-2212991 فیکس: 021-2633887

پاکستان میں ڈاک سے منگوانے کے لیے رابطہ کیجیے

کامیابی ڈائجسٹ پبلی کیشنز

ای میل: kamyabi22@yahoo.com

الفتح بک سینٹر

پوسٹ باکس 8545، کراچی 75530

www.timemanagementclub.com

# رشتے آن لائن

بچوں کے رشتوں کے لیے اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھائیے

[www.rishteyonline.com](http://www.rishteyonline.com)

ویب سائٹ پر دیے گئے فارم پر ضروری معلومات فراہم کر کے رابطے کی ابتدا کیجیے

بذریعہ خط تجاویز اور مشوروں کے لیے اس پتے پر لکھیے

پوسٹ بکس 8545، کراچی-75530

[www.rishteyonline.com](http://www.rishteyonline.com)



دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہنے والوں کے لیے رہنما کتاب

## شاہراہِ عافیت

حضرت علیؓ، امام مالکؒ، طاہر بن الحسین، خطاب بن معلیٰ، امانت بنت حارث اور خرم مراد کی تاریخی نصیحتوں اور وصیت ناموں پر مشتمل سبق آموز تحریریں۔  
زہد و تقویٰ، عملی زندگی کے انمول تجربوں اور آخرت کے تقاضوں کی بنیاد پر مرتب کیے گئے پندرہ سو مند جوئے سرے سے زندگی کی منصوبہ بندی پر اکساتے ہیں۔  
بے ثبات دنیا کی عارضی زندگی اور دائم آباد آخرت کی حیاتِ مستقل... دونوں میں کامیابی اور سرخروئی کا لائحہ عمل... سب کے لیے۔

ایک ایسی کتاب جو آپ اپنے ان پیاروں کو تحفہً پیش کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں جن کی کامیابی چاہتے ہیں۔

ذاتی ترقی کے لیے سات صفحات پر مشتمل ایکشن پلان جوئی اور کامیاب زندگی کی

منصوبہ بندی میں آپ کی مدد کرے گا۔

رنگین سرورق، آفسٹ طباعت

صفحات 104، قیمت، 50 روپے

قریبی بک اسٹال سے طلب کیجیے یا اس پتے پر آرڈر بک کرائیے

فضلی بک سپر مارکیٹ، اردو بازار، کراچی، پاکستان

فون: 021-2212991 فیکس: 021-2633887

پاکستان میں ڈاک سے منگوانے کے لیے رابطہ کیجیے

کامیابی ڈائجسٹ پبلی کیشنز

ای میل: kamyabi22@yahoo.com

الفتح بک سینٹر، پوسٹ باکس 8545، کراچی 75530

www.timemanagementclub.com

## یادداشتیں

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....